

پچاس سے زائد تقاریظ سے مزین تحفہ

# زینت العاشقین وانتظار المحبوبین



[iqbalkalmati.blogspot.com](http://iqbalkalmati.blogspot.com)

مصنف

عبدالحق صاحب

المعرف مصنف بادشاہ

نوٹ: اس کتاب کو ہاتھ لگانے کی بے دروادی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔

پچاس سے زائد تقاریظ سے مزین تحفہ

# زینت العاشقین و انتظار المحبوبین

ایسی نادر و نایاب کتاب جس کے مصنف کو ہر روز  
مکمل قرآن مجید کی تلاوت نصیب ہوتی ہے۔

مصنف:

حسینی فقیر

قاری عبدالحق حسنات

المعروف حسینی بادشاہ

نوٹ: اس کتاب کو ہاتھ لگانے کی بے درد آدمی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔

پاک حسین (رضی اللہ عنہ) کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔

(حسینی فقیر)

**جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں**

نام کتاب	:	زینت العاشقین و انتظار المحبوبین
مصنف	:	حسینی فقیر عبدالخالق حسناٹ
تعداد کتب	:	1000
سن اشاعت	:	رجب المرجب 1438ھ بمطابق اپریل 2017ء
مطبع	:	محمود برادرز پرنٹرز راولپنڈی

**Rs. 444.00**

اللہ کے فضل و کرم، انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپوزنگ، طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرمائیں۔ انشاء اللہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا۔ (ادارہ)

## حُسن ترتیب

15	فقیرِ زماں کنز الفقراء فقیر عبد الحمید سوری قادری	تقریظ
16	صاحبِ فکر و نظر منبعِ فقر و ولایت، پیر محمد حسن الباروی	تقریظ
18	مفکرِ اہلسنت، مفتی اہلسنت مفتی فدا حسین رضوی	تقریظ
21	صاحبِ کشف و بصیرت، صاحبِ علم و معرفت، حضرت علامہ قاری العصر پیر مولانا غفران محمود سیالوی صاحب	تقریظ
23	شہنشاہِ جہانِ خطابت، پیرِ طریقت، رہبرِ شریعت، پیر سید حسن علی شاہ گیلانی	تقریظ
25	استاذ العلماء، تاج الفقہاء، حضرت علامہ محمد عبدالحق بندیا لوی مدظلہ العالی	تقریظ
26	منبعِ کشف و بصیرت، اشرف العلماء و المشائخ، خواجہ پیر مفتی محمد اشرف القادری محدث نیک آبادی	تقریظ

27	تقریظ قائدِ دوراں، قابلِ صد تکریم حضرت غازی احمد شیر صاحب
28	تقریظ کنز العلماء، مفکر اسلام، علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب
29	تقریظ پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر صاحبزادہ احمد حسن سواگی العثماني
30	تقریظ قاری زماں قاری کرامت علی نعیمی
31	تقریظ علامہ مفتی عبدالرزاق بھٹرا لوی حطاروی
32	تقریظ محقق اہلسنت مفتی غلام محمد سیالوی
33	تقریظ منبع کشف و وفاء، فقیر معظم علامہ سعید انجم قادری
34	تقریظ صاحب معرفت، قاری قرآن فخر پاکستان قاری محمد خادم بلال مجددی
35	تقریظ سرچشمہء طریقت، صاحب بصیرت پیر صاحبزادہ خواجہ نور محمد چشتی
36	تقریظ منبع کشف و طریقت، امیر الحجو دین، امام القراء قاری رحمت اللہ مدنی

37	جامع طریقت، گشتہ عشق رسول، پیر سید محمد عنایت اللہ شاہ گیلانی قطبی محمودی سلیمانی	تقریظ
38	مفتی دوران، مبلغ زماں، پیر محمد جمال الدین قلندری بغدادی	تقریظ
39	تاج العلماء، آبروئے اہل سنت، مناظر اہل سنت، علامہ محمد عبدالنواب صدیقی	تقریظ
40	سفیر ملت، ملک محمد سفیر اعوان	تقریظ
41	سرمایہ اہل سنت، پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالمالک	تقریظ
42	مناظر دوران، پاسبان مسلک رضا، پیر مفتی ابو حذیفہ محمد کاشف اقبال مدنی	تقریظ
44	بحر تصوف و طریقت، عالمی مبلغ اسلام، صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجددی	تقریظ
45	آفتاب ولایت پیر جلیل الرحمن نقشبندی مجددی	تقریظ
46	توقیر الفقراء والعلماء پیر سید علامہ محمد توقیر الحسنین شاہ کاظمی	تقریظ
47	ہزاروں قراء کے استاد قاری دوران قاری علی اکبر نعیمی	تقریظ
48	مقرر نقطہ داں مفتی نذیر احمد چشتی	تقریظ
49	صاحبزادہ میاں غلام صفدر چشتی صاحب	تقریظ

50	یادگار اسلاف - شہباز جہان معرفت پیر صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی	تقریظ
51	فخر المشائخ پیر سید دیوان آل حبیب علیخان شاہ صاحب	تقریظ
52	استاذ المجو دین قاری محمد یوسف سیالوی	تقریظ
53	عرفان العلماء، بحر علم و عرفان، پیر سید محمد عرفان ناصر چشتی	تقریظ
54	تقریظ سرمایہ اہلسنت مفتی حبیب الرحمن رضا قاسمی صاحب	تقریظ
55	مفکر ملت مفتی اہلسنت مفتی محمد نوازش المدنی العطاری	تقریظ
56	مصنف کتب کثیرہ مفتی غلام حسن قادری	تقریظ
57	سند العلماء، صاحب طریقت، مفتی محمد حسین چشتی	تقریظ
58	پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید الحاج میاں ریاض احمد شاہ صاحب	تقریظ
59	قاری اعظم قاری محمد اعظم چشتی	تقریظ
60	قاری ملت دنیائے اہل سنت کے روحانیت یافتہ قاری، قاری محمد اعظم نورانی	تقریظ
61	پیکر روحانیت حضرت علامہ ضمیر احمد نقشبندی	تقریظ
62	فاضل یگانہ علامہ محمد یعقوب ہاشمی	تقریظ
63	مدرس عصر قاری محمد شفقت اللہ قادری	تقریظ

64	مقبول اولیاء شمشیر اولیاء علامہ محمد مقبول احمد قادری	تقریظ
65	تاج القراء، قاری محمد رفیق نقشبندی	تقریظ
66	صاحب معرفت، پیکر عجز و نیاز، دنیائے اہل سنت کے عظیم قاری، قاری محمد فاروق سیالوی	تقریظ
67	تاج المجو دین قاری غلام مصطفیٰ نعیمی	تقریظ
68	پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ پیر صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب	تقریظ
69	فخر السادات، پیر طریقت پیر سید فخر سلیمان شاہ بخاری	تقریظ
70	مولف عصر، مولانا علامہ وسیم اکرم نقشبندی	تقریظ
71	پیکر عشق و محبت، واقف انوار طریقت صاحبزادہ ڈاکٹر انوار الحق بندیا لوی	تقریظ
73	پیکر روحانیت پیر طریقت، رہبر شریعت پیر سید محمد سیف اللہ شاہ القادری کاظمی	تقریظ
74	مقرر دوراں، محقق عصر حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد منصور شاہ اویسی	تقریظ
77	عارفانہ رنگ میں مقدمہ کتاب راحت العاشقین حضرت عارف کھڑی علیہ الرحمۃ کی زبانی	



78	صوفیانہ چال میں احسن مقدمہ زینتِ صوفیاء حضرت عارف کھڑی علیہ الرحمۃ کے پرتا شیر اشعار کے روپ میں
79	فقیرانہ طرز پر تمبیہ
92	انوکھے راز اور فقیرانہ انداز میں شاندار مقدمہ زینت الفقراء و محبوب القراء حضرت سلطان العارفین محبوب المتقین حضرت سخی سلطان باہو علیہ الرحمۃ کے شاندار کلام کی روشنی میں
99	عاشقانہ طرز پر شاہین مقدمہ سند عشاق، آفتاب عشاق، زینت عشاق، سرتاج عشاق، عزت عشاق، رونق عشاق، راحت عشاق، حضرت خواجہ سیدی غلام فرید علیہ الرحمۃ کے عاشقانہ کلام پر مبنی
99	اہلِ درد متوجہ ہوں
100	پرتا شیر جھلکیاں
101	حضرت قبلہ کے کلام کی باقاعدہ پیش کش
101	اول قسط
105	دوم قسط
106	سوم قسط
107	چہارم قسط

107	پنجم قسط
108	ششم قسط
109	ہفتم قسط
110	ہشتم قسط
110	نہم قسط
111	دہم قسط
112	یازدہم قسط
113	دوازدہم قسط
114	سیزدہم قسط
114	چہار دہم اور آخری قسط
115	درویشانہ طرز پر قابل تحسین مقدمہ راحت اولیاء عزت اولیا، رونق اولیا، زینت اولیاء، واقف اسرار طریقت، محبوب غوث الوری، آل رسول باغ شریعت کے پھول سیدی حضرت مہر علی شاہ علیہ الرحمۃ کے پر کیفیت کلام کے اجالے میں
115	پہلی فصل
115	حصہ اول
116	حصہ دوم

116	حصہ سوم
116	حصہ چہارم
117	دوسری فصل
117	حصہ اول
117	حصہ دوم
118	تیسری فصل
118	حصہ اول
118	حصہ دوم
118	حصہ سوم
119	حصہ چہارم
119	چوتھی فصل
120	باغ شریعت کے پھول کے کلام کی پانچویں اور آخری فصل
121	عالمانہ طرز پر دلچسپ مقدمہ عزت علماء اسلام واقف رموز شریعت سفینہء تحقیق و کرامت سند علماء حق محدث بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ کے دل میں گھس جانے والے کلام کی شکل میں
121	خاص نوٹ، اہل درد متوجہ ہوں

121	دل کش نظارے
124	محدث بریلوی علیہ الرحمۃ کے کلام کی باقاعدہ پیش کش
124	اول پیش کش
125	دوم پیش کش
126	سوم پیش کش
127	چہارم پیش کش
128	پنجم پیش کش
130	ششم پیش کش
131	ہفتم پیش کش
133	ہشتم پیش کش
134	نہم پیش کش
135	مظہر غوث جلی کے کلام کی دہم اور آخری پیش کش
136	مجاہدانہ رنگ میں جامع مقدمہ
137	قلندرانہ رنگ میں مختصر مقدمہ
137	مقدمہ تصنیف کا آخری منظر
138	تصنیف اردو میں تحریر کرنے کی وجہ
138	سبب تصنیف نہ بیان کرنے کی وجہ

139	اہل علم متوجہ ہوں
140	شریعت اسلام اور خون حسین
141	فقیری رنگ میں عظمت اسلام کا بیان رونق فقراء حق حضرت کفایت علی کافی علیہ الرحمۃ کے پر رونق اور پر تا شیر کلام پر مبنی
142	قابل توجہ بات
143	ٹوٹے ہوئے دل متوجہ ہوں
143	نقش کامل
144	خاص بات
144	انتہائی پر تاثیر نقش کی پیش کش
145	اہل کشف متوجہ ہوں
145	خاص توجہ
146	شاندار نقش کی پیش کش
147	نہایت عمدہ نقش کی پیش کش
147	دلدوز نقش کی پیش کش
148	خاص نقش کی پیش کش
149	انتہائی اہم نقش کی پیش کش

150	نقشِ حسین کی پیش کش
151	نقشِ اسلام
151	ضروری بات
152	مریدینِ عشق متوجہ ہوں
152	عشق کی وادی
154	قارئین متوجہ ہوں
167	عوام الناس متوجہ ہوں
167	وقت کی اہم ضرورت
168	رموز بھرا نقش
169	اہل بصیرت متوجہ ہوں
170	اہل درد متوجہ ہوں
170	محبت میں جلے ہوئے دل متوجہ ہوں
170	اے جانِ من پریشان نہ ہو
171	دعا
172	اے جانِ من خوش ہو جا
172	اسلامی ناموں کی خوبصورت وادی
305	خفیہ امانتیں

305	احساس
306	تصنیف لطیف کے نقوش کے خواص کے اشارات
316	خاص الخاص وظیفہ
317	توجہ
317	نقطہ
318	تصنیف لطیف کا آخری منظر
318	دعا یہ ہے

## تقریظ

فقیر الفقراء، کنز الفقراء، خمس الفقراء، صاحب فقر و ولایت، مصنف دوراں، فقیر زماں

فقیر عبدالمجید سروری قادری مدظلہ العالی

وارث مسند ولایت کلاچی شریف

دربار عالیہ نوری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں نے عبدالحال حسنات حسینی فقیر کی لکھی ہوئی کتاب ”زینت العاشقین و انتظار المحبوبین“ کا سرسری طور پر مطالعہ کیا ہے اور میں نے اس کتاب کو ایک بہت ہی مفید اور نایاب ابواب پر مشتمل پایا ہے اس کے پڑھنے والے کو ضرور عشق مصطفیٰ ﷺ اور دیدار الہی کا وافر حصہ ملے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

فقیر مسند ولایت کلاچی شریف

دربار عالیہ نوری کلاچی شریف

ضلع ڈیرہ اسماعیل خان۔ خیبر پختون خواہ



## تقریظ

صاحب فکر و نظر، شہباز جہان ولایت، منبع فقر و ولایت، سند الفقراء

پیر طریقت، رہبر شریعت، فقیر دوراں

صاحبزادہ پیر محمد حسن الباروری الحسنى دامت برکاتہم العالیہ

سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو کریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الصلوات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ

و بارک وسلم۔ اما بعد۔

عزیزم محترم الحافظ عبدالخالق حسنا کی تصنیف کردہ کتاب کے چند اوراق پڑھنے کا موقع ملا۔ میں نے اس کتاب کو بہت مفید پایا ہے۔ خواص اور عوام کے لیے یہ راہ عشق پر زادراہ کے طور پر معارف ہونے اور کراے والی کتاب ہے۔

راہ عشق و معرفت کے پیچیدہ و پر پیچ راستوں میں مصنف نے ایک روشن سنک میل کی راہ کی طرح راہنمائی کی ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے حاصل ہے جو کہ معرفت کی راہوں پر چلنے کا شوق رکھتے ہیں مگر ’توشہ دان‘ نہ ہونے کی وجہ سے اپنا ذوق و شوق تقریباً ختم کر لیتے

ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم اور پوشیدہ خزانے کا ایک کثیر حصہ مصنف کو عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے انہوں نے راہ سلوک پر چلنے والے لوگوں کے شوق کو بیدار کیا ہے۔

آخر میں بارگاہ رب العزت میں التماس ہے کہ مصنف کی کاوش اور کوشش کو حضور پر نور، نور مجسم، فخر دو عالم والضحیٰ کے چہرے والے، وائیل کی زلفوں والے، الم نشرح کے سینے والے، طہ کے تاج والے، مازاغ کے سرے والے، و ما ینطق عن الہویٰ کے لبوں والے، سرور کون و مکاں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علم میں معرفت، طریقت، حقیقت میں کمال عروج اور ترقیاں عطا فرمائے۔ دارین کی سعادتیں نصیب ہوں۔ وانما خادم شریعت رکھے (آمین)

خادم آستانہ عالیہ پیر بارو کریم ضلع لیہ

فقیر محمد حسن المباروی عفی عنہ

## تقریظ

مفکر اہل سنت، مفتی اہل سنت، محقق العصر، محسن اہل سنت، فقیر اہل سنت

مؤلف حق چاریار، محقق زماں، کنز المدرسین۔ فخر الحققین

حضرت علامہ مولانا مفتی فدا حسین رضوی مدظلہ العالی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لولیه والصلوة علی نبیہ و علی الہ واصحابہ المتتابعین بادابہ اجمعین۔  
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین  
امنوا اشد حباً للہ۔

مومن سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت جب درجہ  
کمال کو پہنچتی ہے تو عشق بن جاتا ہے اور جب بندے کو یہ دولت نصیب  
ہو جائے تو وہ دنیا و مافیہا کو چھوڑ کر عشق الہی اور عشق محبوب الہی کے  
جلوؤں میں گم ہو جاتا ہے اور وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ جو اس میدان  
سے نا آشنا لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور عشق کی وادی وہ  
عظیم وادی ہے جہاں سب کچھ لٹا کر بھی محبت اپنے محبوب کو پانے کے  
لیے سرگرداں رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عشق کرنا چاہے تو  
اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھے۔

بقول شاعر:

عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے  
آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر  
اور ہم تو اہل سنت و جماعت خنی بریلوی بندے ہی عشق کے ہیں  
کیونکہ ہمارے امام، امام اہل سنت، سیدی اعلم حضرت محدث بریلوی  
فرماتے ہیں۔

طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد  
ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے  
المنفرد یہ ہے کہ عشق الہی و محبوب الہی اور اہل بیت و صحابہ اور اولیاء کا ملیں  
خصوصاً غوث الاعیاء، قطب الاقطاب، غوث الجن والانس، غوث الارض  
والسماء، سید شیخ عبدالقادر جیلانی الحسینی والحسینی کا عشق ہی وہ لازوال  
دولت ہے جو ہر مسلمان کے لیے ایمان دنیا سے لے کر جانے کی سند  
ہے۔ لہذا اگر کوئی عشق سے شناسائی کا متمنی ہو۔ چاہے عوام الناس میں  
سے ہو یا خواص میں سے خصوصاً شکستہ دلوں، اہل درد اور مریدین عشق  
کے لیے مسافر 'عشق' مرید عشق، زینت القراء حافظ و قاری عبدالخالق  
حسنت المعروف حسینی بادشاہ کی کتاب لاجواب 'زینت العاشقین و  
انتظار المحبوبین' ایک بہترین اور انوکھی چیز ہے۔ اس کتاب میں عشق کا وہ  
سامان موجود ہے جو کسی بازار سے نہیں ملتا سوائے اس کے۔ اس بناء پر

اس کتاب کا مطالعہ ہر عاشق صادق کے لیے از حد ضروری ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مصنف روحانیت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں اور الفاظ پڑھ کر پتہ لگتا ہے کہ ان الفاظ کو عشق کی بھٹی میں پکا کر الفاظ کا جامع پہنا کر کتاب کی زینت بنایا گیا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شعر مصنف ہی کے لیے لکھا گیا تھا۔

سنا ہے عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ  
ہم بھی مرید اسی سلسلے کے ہیں



احقر العباد  
قدوس بن رضوی

## تقریظ

سلطان الواعظین، کنز الحکمین، قاری العصر، صاحب کشف و بصیرت  
شہباز جہان خطابت، پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحب علم و معرفت  
حضرت علامہ مولانا پیر غفران محمود سیالوی مدظلہ العالی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آج مورخہ ۲۰۱۶-۱۰-۲۵ میرے پاس ایک درویش صفت اور  
انتہائی منکسر المزاج مہمان تشریف فرما ہوئے جن کا اسم گرامی حضرت  
مآب حضرت قبلہ صوفی باصفا قاری عبدالحق حسنت المعروف حسینی بادشاہ  
ہے۔

حضرت نے اپنی کتاب بنام زینت العاشقین و انتظار المحبوبین پر  
اپنے تاثرات تحریر کرنے کا حکم فرمایا۔

حضرت کی تحریر ۳۰۰ سے زائد صفحات پر مشتمل ہے جسے نظر عمیق  
سے بالاستیعاب مطالعہ کرنا قلتِ وقت کے باعث ممکن نہیں۔ سرسری نظر  
سے کتاب کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کتاب کا ابتدائی حصہ صوفیاء کے  
اشعار سے مزین ہے۔ جو کہ اہل درد کے لیے حرزِ جاں ہے۔ اور ما بعد کا  
حصہ تعویذات بصورتِ نقوش پر مشتمل ہے جو کہ عالمین کے لیے مفید

ہے۔ حضرت سے ملاقات اور گفتگو ہوئی۔ چند لمحات کی صحبت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جذبی کیفیت کے حامل ہیں۔ اس لیے کتاب کا اکثر حصہ جذبی کیفیت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مجاہد تصوف کے لیے مفید بنائے۔ آمین۔

محمد غفران محمود سیالوی

## تقریظ

صاحب علم و معرفت، شہنشاہ خطابت، مقرر اسلام، مقرر اہل سنت  
شمس الواعظین، مقرر زماں، خطیبِ دوراں، نجم العلماء، نجم السادات  
پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز طریقت  
حضرت علامہ پیر سید حسن علی شاہ گیلانی مدظلہ العالی  
بانی و مہتمم دارالعلوم قادریہ محی الدین گیلانی۔ واجل ضلع بھکر

### بسم الله الرحمن الرحيم

عزیز القدر قاری عبدالحق حسنت صاحب، حسینی فقیر زید فضلہ و  
علمہ کی تصنیف کردہ کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کے چند  
صفحات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا معلوم ہوا کہ حضرت کی یہ کاوش راہ  
سلوک پر چلنے والوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حضرت نے اپنی خداداد  
صلاحیت سے گویا اسماء کے علم کو ایسا نکھار دیا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا  
ہے۔ فجزاء الله عنا و عن جميع المسلمين

مجھے امید ہے کہ یہ کتاب عوام میں اور راہ سلوک پر چلنے والوں  
کے لیے قبولیت عام حاصل کرے گی۔



دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی عمر دراز فرمائے اور انہیں دین  
متین کی بیش از بیش خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔

امین بجاہ حبیبہ سید المرسلین

سنگ درگاہ جمیلان

مسیم حسن علی شاہ گیلان

## تقریظ

فقیر العصر، استاذ العلماء، تاج الفقہاء، امیر العلماء، پیر طریقت  
شہنشاہ جہان بصیرت، واقف اسرار طریقت  
حضرت علامہ محمد عبدالحق بندیا لوی صاحب مدظلہ العالی  
سجادہ نشین آستانہ عالیہ بندیا ل شریف

عزیز حافظ عبدالحق حسنت کی کتاب زینت العاشقین و انتظار  
المحبوبین کے متعلق مختصر ابرخوردار انور الحق نے بتایا تو یہ ایک مجذوب کی  
مخصوص باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عشق و محبت کے اس سمندر کو سمجھنے کی توفیق  
عنایت فرمائے اور عاشقان رسالت مآب ﷺ کے ذوق کا سامان میسر  
کرنے والے کو جزائے خیر دے۔ آمین و بجاہ سید المرسلین۔

ہر کہ عشق مصطفیٰ ﷺ سامان اوست  
بحر و بر در گوشہ دامان اوست

(علامہ اقبال)

محمد نور محمد بندیا لوی  
بندیا لوی  
۲۰۱۶

## تقریظ

اشرف العلماء والمشاخ، عالمی مبلغ اسلام، منبع علم و حکمت، منبع کشف و بصیرت

منبع تصوف و طریقت، مفتی اعظم، شیخ الحدیث و التفسیر

خواجہ پیر مفتی محمد اشرف قادری محدث نیک آبادی

مرکزی سجادہ نشین خانقاہ قادریہ عالیہ نیک آباد

بسم الله الرحمن الرحيم۔ حمدلاً و مصلياً و مسلماً

عزیز القدر حضرت قاری عبدالحق حسنت حسینی فقیر اپنی تصنیف

لطیف ”زینت العاشقین و انتظار المحبوبین“ کا مسودہ لے کر بندہ کے پاس

تشریف لائے اور اس پر تقریظ لکھنے کی فرمائش کی۔ بندہ عاجز فرصت نہ

ہونے کی وجہ سے کتاب کا مطالعہ تو نہیں کر سکا البتہ کہیں کہیں نظر ڈالنے کے

بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ کتاب عشق الہی جل جلالہ و عشق حضرت رسالت مآب

ﷺ کے مضامین اور انتہائی اہم مفید نقوش کے بیان پر مشتمل ہے۔

بندہ عاجز دعا گو ہے کہ مولیٰ تعالیٰ اس کتاب کو خلق خدا کے لیے نافع

بنائے اور مصنف عزیز القدر کے لیے سرمایہ آخرت بنائے۔

لاہور، پاکستان

مرکز سجادہ نشین خانقاہ قادریہ عالیہ نیک آباد

## تقریظ

غازی اسلام، قلندر دوراں، قابل صد تکریم، قابل دید و الفت

آفتاب ولایت، مہتاب روحانیت

حضرت غازی احمد شیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ

اباخیل۔ میانوالی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عاجز کو ”زینت العاشقین و انتظار المحبوبین“ کا نام سن کر دلی خوشی

ہوئی اور یہ نام بہت پسند آیا۔ فقیر کہتا ہے کہ ایسی کتابیں ہونی چاہئیں۔

احمد شیر

## تقریظ

کنز العلماء، مفکر اسلام، مہتاب طریقت، آفتاب روحانیت  
حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدظلہ العالی  
بانی ادارہ صراط مستقیم۔ لاہور

**بسم اللہ الرحمن الرحیم**

چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے  
ملا کے کندھے سے کندھا افتخار پے چھاتے جانا ہے

محمد شریف منیر

## تقریظ

آفتاب ولایت، پروردہ آغوش ولایت، پیر طریقت رہبر شریعت، واقف اسرار حقیقت

حضرت پیر صاحبزادہ احمد حسن سواگی العثمائی مدظلہ العالی

سجادہ نشین آستانہ عالیہ سواگ شریف

احقر العباد نے زینت العاشقین و انتظار الحبوبین کے بعض مقامات کو دیکھا اور اس کتاب کو نادر و نایاب پایا جس کے نام سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی گہرائیوں تک پہنچنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو قبولیت عامہ عطا فرمائے۔ آمین۔

مہینہ رمضان  
آستانہ عالیہ سواگ شریف

## تقریظ

قمرالجبو دین، آفتاب القراء، مہتاب القراء، سند القراء

دنیاۓ اہل سنت کے شہرت یافتہ قاری

قاری زماں قاری کرامت علی نعیمی مدظلہ العالی

بانی جامعہ امیر یہ نعیمیہ۔ فیصل آباد

بھم اللہ میرے دوست عزیزم قاری عبدالحق حسنت زید مجددہ کی  
تصنیف شدہ کتاب زمینت العاشقین و انتظار المحبوبین کی بندہ ناچیز نے  
طائرانہ طور پر زیارت کی۔ ماشاء اللہ مصنف کا عجیب انداز ہے کہ ایک ہی  
کتاب میں بہت ساری چیزوں کو یک جا کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ  
اپنے محبوب پاک ﷺ کے صدقے اس کتاب کو لوگوں کے لیے نافع  
کرے۔ اور مصنف کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ ثم آمین۔

کرامت علی نعیمی  
17-10-2017

بانی جامعہ امیر یہ نعیمیہ۔ فیصل آباد

## تقریظ

حشی کتب کثیرہ، استاذ العلماء والمدرسین، شیخ الحدیث والنسب

مفتی عبدالرزاق بھتر الوی حطاروی صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الواحد القهار والصلوة والسلام على سيد الابرار و صحابه الاخير  
و اله الاطهار۔

کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کے مصنف جناب قاری  
عبدالحق حسنت صاحب راقم کے پاس تشریف لائے اور کتاب پر تقریظ  
لکھنے کا ارشاد فرمایا۔ کتاب چونکہ تصوف میں ہے تصوف کی خاص  
اصطلاحات سے تو صوفیاء کرام ہی واقف ہیں۔ تاہم کوئی تحریری کام کرے  
اور لوگوں کی نیکی کی طرف راہنمائی کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب  
کرے تو اس کا کام قابل صد تحسین ہے۔ مجھے امید ہے کہ سالکین کے لیے  
یہ کام فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے قارئین کو اس سے زیادہ  
سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مصنف صاحب  
کے لیے بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ تم آمین۔

عبدالرزاق بھتر الوی حطاروی



## تقریظ

محسن ملت، فاضل جلیل، فخر اہل سنت، محقق اہل سنت، محقق یگانہ  
حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد سیالوی صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عزیزم محترم مولانا صوفی عبدالخالق حسنت زید شرفہ دینی جذبہ  
سے سرشار نوجوان ہیں اور اسی جذبہ کے پیش نظر انہوں نے کوشش فرما کر  
’زینت العاشقین و انتظار المحبوبین‘ کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف  
فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے اشعار، مختلف تعویذات اور  
تصوف کے بیان پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ اپنے مقررین  
اور محبوبین کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور  
اہل اسلام کو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تم آمین

مفتی غلام محمد سیالوی  
مفتی غلام محمد سیالوی  
مفتی غلام محمد سیالوی  
مفتی غلام محمد سیالوی  
مفتی غلام محمد سیالوی  
مفتی غلام محمد سیالوی

## تقریظ

فقیر معظم، سعید المدرسین، عالم نبیل، فاضل جلیل

پیکر کشف و وفاء، صاحب روحانیت، فقیہ اہلسنت

حضرت علامہ مولانا محمد سعید انجم قادری صاحب مدظلہ العالی

مدرس جامعہ امیر حمزہ، صفحہ الاسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ناچیز نے کتاب ہذا کو ملاحظہ کیا۔ کتاب کیا تھی سونے کی چڑیا  
جناب مصنف کے الفاظ میں وہ درد ہے جو اس دور میں نایاب ہے اگر  
جامی، رومی، سعدی، ظاہری حیات کے ساتھ ہوتے تو وہ اس کتاب پہ  
سونے کی ملمع سازی کرتے اور وہ اس کتاب کو سینے سے لگا کر رکھتے۔ اگر  
میں عشق کا مفتی ہوتا تو حکم دیتا کہ اس کتاب کو بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے  
لیکن میں شریعت کا تابع ہوں یہ حکم دینے سے عاجز ہوں لیکن اتنا ضرور  
کہتا ہوں کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے وضو  
ضرور کرائے گا۔

محمد سعید انجم قادری

## تقریظ

منبع و فاء، امیر القراء، کنز القراء، مصباح القراء

قاری قرآن، فخر پاکستان، قاری اہل سنت

قاری محمد خادم بلال مجددی مدظلہ العالی، گوجرانوالہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ بندہ ناچیز نے تھوڑا سا کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔  
زینت العاشقین و انتظار المحبوبین نام سے ہی کتاب کا اندازہ ہو رہا ہے  
کہ یہ محبت والوں کی کتاب ہے اور میری دعا ہے اس نوجوان قاری  
عبدالخالق حسنی فقیر کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر پوری  
دنیا میں اس کا فیض پہنچائے۔ آمین۔

سہنوا مہذب: حافظ محمد خان بلال مجددی  
گوجرانوالہ

## تقریظ

سرپرستہ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف اسرار حقیقت

صاحب بصیرت، صاحب طریقت، منبع طریقت

حضرت پیر صاحبزادہ خواجہ نور محمد چشتی مدظلہ العالی

سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹ اہل شریف۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمتہ ونصلی علی رسولہ الکریم امام

فقیر نے قاری عبدالخالق حسنا صاحب مدظلہ کی تصنیف کردہ کتاب کے

چند اوراق کا مطالعہ بغور کیا جس میں راہ سلوک اور عشق مصطفیٰ ﷺ کے

مضامین موجود ہیں جو کہ سالک کے لیے نہایت مفید ہیں کیونکہ عشق

مصطفیٰ ﷺ کے بغیر معرفت خداوندی کا حصول ناممکن ہے لہذا کتاب

زینت العاشقین و انتظار المحبوبین نہایت بہترین کتاب ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مصنف کے علم و عمل میں برکتوں کا نزول

فرمائے۔ آمین۔

صاحبزادہ نور محمد چشتی

آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ کوٹ اہل شریف۔ تحصیل گلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

## تقریظ

امیرالمجوبین، سندالمجوبین، امام القراء، منبع کشف و طریقت

قاری رحمت اللہ مدنی، دامت برکاتہم العالیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ماشاء اللہ بندہ ناچیز نے قاری عبدالخالق حسنا صاحب کی تصنیف کردہ کتاب زینت العاشقین و انتظار المجوبین کا حرف بحرف مطالعہ کیا پڑھ کر قلبی خوشی ہوئی کہ ہمارے مسلک میں ایسے باصلاحیت قراء اور علماء کی ضرورت ہے۔ کتاب ہذا کے اندر حضرت مصنف نے ہر طرح کے دینی علوم کو جمع فرمایا اور کتاب میں انوکھا رنگ شامل فرمایا۔ بندہ ناچیز کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کے وسیلے سے اس کتاب کو تمام امت مسلمہ کے لیے نفع بخش بنائے۔ آمین۔ تم آمین۔

تقریظ و تحفہ، القاری مدنی

مدرس دارالعلوم چشتیہ رضویہ تحصیل پہاڑ پور ضلع ڈی آئی خان۔

## تقریظ

صاحب عجز و نیاز، جامع طریقت، پیر کامل، کھنڈہ عشق رسول

نحر الفقراء، پیر طریقت، رہبر شریعت

پیر سید محمد عنایت اللہ شاہ گیلانی

قطبی محمودی سلیمانی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ سلیمانیہ کنجیال شریف

حب درویشاں کلید جنت است

دشمن ایشاں سزائے لعنت است

کتاب زمینت العاشقین و انتظار المحبوبین عزیزم حضرت علامہ عبدالحق  
حسنت زاد عمرہ و عز قدرہ نے بڑی محبت اور اپنے عشق کامل کا دامن پکڑ کر  
اس معدیت پسند دور میں لکھ کر نبی رحمت ﷺ کی غلامی کا ثبوت پیش کیا۔  
دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ اپنے مقبولین بارگاہ کا یہ کاوش ان کے  
لیے دونوں جہانوں میں باعث مغفرت و افتخار بنائے۔ اس دعا من و از  
جملہ جہاں آ میں آباد

میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس میں  
میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس میں  
میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس میں

## تقریظ


مفتیؒ دوراں، مبلغؒ زماں، خطیبؒ عرب و عجم، پیر طریقت

مفتیؒ پیر محمد جمال الدین قلندری قادری بغدادی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لولہ والصلوٰۃ والسلام علی نبیہ وعلیٰ آلہ واصحبہ اجمعین

احقر العباد محمد جمال الدین کی امروز ملاقات ایک صوفی منش شخصیت قاری عبدالخالق حسنا زید مجہد سے ہوئی۔ تحسّس ہوا کہ بندگان خاص کے فیضان سے سراب و سرشار ہیں۔ بلکہ محبوبوں اور مقبولوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جناب کی کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کو چیدہ چیدہ طائرانہ نگاہ سے دیکھا۔ یقیناً کتاب مستطاب مملوء از حب عارفین و سالکین و کاملین ہے۔ جس کے فوائد فوائد الناس کے لیے کثیر ہیں۔ اس دور میں یہ کاوش یقیناً قابل ستائش اور قابل تہنیک ہے۔ حق تعالیٰ جناب کی اس کاوش و سعی جمیلہ کو دارین میں سرخروئی کا سبب و علت قرار فرمائے۔ آمین۔



## تقریظ

آبروئے اہل سنت، مناظر اہل سنت، محسن اہل سنت، محقق اہل سنت

خطیب زماں، شمس المدرسین، فخر العلماء


حضرت علامہ مولانا محمد عبدالنواب صدیقی مدظلہ العالی

مدرس جامعہ نظامیہ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمتہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد قاری عبدالخالق حسنت المعروف حسینی بادشاہ صاحب کی تحریر کردہ کتاب کا جزوی مطالعہ کے بعد بندہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ آپ نے زینت العاشقین و انتظار المحبوبین پر کافی جدوجہد کی ہے۔ مسلمانوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی تحریر کردہ کتاب مقبول عام بنائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم ﷺ۔






## تقریظ

سفیر ملت، فقیر ملت، برادر غازی اسلام

ملک محمد سفیر اعوان صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں نے حافظ قاری عبدالحق حسنت حسینی فقیر کی کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کو چیدہ چیدہ مقامات سے دیکھا۔ کتاب کو بہت اہمیت پایا۔ اس کو جب میں دیکھ رہا تھا تو غازی اسلام کے قدموں میں موجود تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ غازی اسلام کی روحانی توجہ اس کتاب کی جانب ہے اور آپ اپنی روحانی آنکھ سے اس کتاب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ غازی صاحب کی روحانی توجہ سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بہت پذیرائی عطا فرمائے گا اور جب اس کتاب کا عاشقین مطالعہ فرمائیں گے تو غازی اسلام کی روح ٹھنڈی ہوگی۔



## تقریظ


مفکر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، پیر طریقت، محسن ملت  
حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالملک صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم خصوصاً علی عباد اللہ الصالحین

بندہ نے عزیزم مولانا حافظ عبدالخالق حسنت المعروف حسینی بادشاہ کی  
تصنیف کردہ کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین اول تا آخر ملاحظہ  
کی۔ عزیزم قاری صاحب نے ایک اچھوتے انداز میں کتاب عشق تحریر  
کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اہل محبت کو استفادہ کرنے کی توفیق  
عطا فرمائے۔ آمین۔ ثم آمین

ذره عشق بنی از حق طلب سوز صدیق و علیٰ از حق طلب



## تقریظ

مناظر اسلام، شمس المناظرین، پاسبان مسلک رضا، مبلغ اہل سنت

مفتی اسلام، مناظر دوراں، مصنف زماں

پیر مفتی حضرت علامہ ابو حذیفہ محمد کاشف اقبال مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ

### بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اور اس کے محبوب کریم ﷺ سے سچی محبت ہی دین کی بنیاد ہے۔ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے لے کر آج تک تمام اولیاء کرام صوفیاء کرام کی تعلیمات کا یہی خلاصہ ہے اور یہ دولت اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو ہی عطا فرمائی ہے۔ دیوبندی، وہابی، شیعہ، قادیانی، تمام بد عقیدہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہونے کی وجہ سے کفر و ذلالت کی تاریک وادیوں میں ہی بھٹک رہے ہیں۔ عزیز القدر قاری عبدالخالق حسنت صاحب کی کتاب زینت العاشقین و انتظار الحبوبین اسی عشق و محبت کے درس کے لیے ہی لکھی گئی ہے۔ راقم الحروف طبیعت کی ناسازی کے باعث با تفصیل مطالعہ نہ کر سکا۔ چیدہ چیدہ چند اوراق دیکھنے کا موقع ملا۔ عزیز القدر موصوف نے اولیاء کرام، صوفیاء کرام

کے کلام ذیشان سے بھی کتاب کو مزین کیا ہے جس میں انہوں نے اسی عشق و محبت کا درس دیا ہے اور اس وادی عشق و محبت سے نابلد جاہل بد عقیدہ ملاں کی بھی خوب خبر لی گئی ہے۔ علامۃ الناس کی بھلائی کے لیے تعویذات و نقوش کی نقول بھی پیش کر دی ہیں تاکہ عوام و خواص اس سے متفیع ہوں۔ مولیٰ تعالیٰ اپنے حبیب کریم ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے عزیز القدر موصوف کی اس سعی محمود کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام لتسلم

ابو سعید محمد کا حنفی اقبال مدظلہ العالی

## تقریظ

جانشین ابوالبلیان، عالمی مبلغ اسلام، شیخ طریقت واقف اسرار حقیقت، بحر تصوف و طریقت

صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجددی دامت برکاتہم العالیہ

زیب سجادہ درگاہ حضرت ابوالبلیان

الحمد لله رب العالمين والمعاضد للمتعبين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين  
وعلى اله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على حبيبه محمد  
و اله وسلم.

حضرت مولانا صوفی عبدالخالق حسنت زید لطفہ درویشانہ انداز و گفتار  
صوفیانہ فقیرانہ وضع و اطوار اور مذہبی جذبہ سے سرشار نوجوان قاری و عالم  
دین ہیں اسی جذبہ کے پیش نظر مولانا صاحب نے ”زمینت العاشقین و  
انتظار المحبوبین“ کے نام سے تصنیف فرمائی ہے۔ خدا تعالیٰ جل سلطانہ کے  
حضور دعا و التجاہ ہے کہ مولانا صاحب مدظلہ کو مزید تصنیف کا کام کرنے کی  
توفیق، انیق، رفیق فرمائے۔ آخر میں ولی نعت سراج العارفین شہباز طریقت  
شارح مکتوبات امام ربانی حضرت علامہ ابوالبلیان پیر محمد سعید احمد مجددی رحمۃ  
اللہ علیہ کے شعر پر اجازت چاہتا ہوں۔

نبی کی آل کے صدقے میں رحمت عام ہو جائے

تیرے بخشے ہوئے بندوں میں میرا نام ہو جائے

دعا کو

محمد رفیق احمد مجددی

## تقریظ

نجم الفقراء، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، صاحب طریقت، پیر طریقت

صاحبزادہ پیر جلیل الرحمن نقشبندی مجددی

وارث مسند ولایت عید گاہ شریف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مکرمی جناب قاری عبدالخالق حسنا صاحب کی تحریر سرسری پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ مخلوق خدا کی خدمت کی انہوں نے کوشش کی اللہ کریم ان مخلصانہ کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور مخلوق خدا کو فیض یاب فرمائے۔

ختم جلیل الرحیم

## تقریظ

توقیر الفقراء والعلماء، فاضل اجل، پیر طریقت، رہبر شریعت، آبروئے ملت

حضرت علامہ پیر سید محمد توقیر الحسنین شاہ کاظمی

سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ خواجہ آباد شریف۔ میانوالی

### بسم اللہ الرحمن الرحیم

فقیر نے قاری عبدالحق حسنت کی کتاب زینت العاشقین و انتظار الحبوبین کے چند اوراق پڑھے۔ میں قاری صاحب کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی اس کاوش کو عشق کی راہوں پر چلنے والوں کے لیے فائدہ بخش ثابت کرے۔ آمین۔ بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔

فقیر محمد رفیع الرحمن شاہ کمالی  
حاجہ سیدہ عائشہ بیگم  
آباد خواجہ آباد شریف

## تقریظ

قاری القراء، فخر الموجدین، سند الجودین، محسن اہل سنت، ہزاروں قراء کے استاد، قاری دوراں

قاری علی اکبر نعیمی صاحب

چیرمین سنی تنظیم القراء پاکستان

بانی و مہتمم العیمیہ انٹرنیشنل قرأت اکیڈمی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں نے بفضلہ تعالیٰ تصوف پر لکھی گئی کتاب چیدہ چیدہ مقامات سے دیکھی مصنف قاری عبدالحق حسنا صاحب نے اپنے بے حد شوق سے تحریر کی۔ زینت العاشقین و انتظار المحبوبین اس کا نام ہے رب العزت کتاب کو مقبول خاص و عام بنائے۔

مؤتاجم القراء، مقارنہ، مقارنہ، مقارنہ



## تقریظ

مقرر نقطہ داں، صاحبِ عجز و نیاز، مفتی ملت، خطیبِ ملت

حضرت علامہ مفتی نذیر احمد چشتی صاحب

دارالعلوم چشتیہ قادریہ

منظر الاسلام۔ چھجری۔ جمعہ شریف۔ ضلع ڈی آئی خان

الحمد لله رب العالمين والعاقلين للمتقين والصلوة والسلام على سيد النبياء والمرسلين

تسمیہ و حمد و صلوة کے بندہ ضعیف کہتا ہے کہ کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین جسے حافظ عبد الخالق حسنت نے تصنیف کیا اس کو ابتداء تا انتہاء پڑھا جو کئی عنوانات پر مشتمل ہے جنہیں ایسی عجیب طرز پر بیان کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔

حررہ الفقیر

نذیر احمد چشتی

## تقریظ

بیر طریقت، پیکر و فاء۔ محبت اولیاء

حضرت صاحبزادہ میاں غلام صغدر گوڑوی صاحب

سجادہ نشین آستانہ عالیہ بالا شریف (میانوالی)

برادر ذی وقار صاحبزادہ ڈاکٹر انوار الحق بندیا لوی صاحب نے مجھے بیان کیا کہ محترم مخلص فی اللہ جناب حسینی فقیر قاری حافظ عبدالحق حسانت صاحب نے اہل دل کی تقویت قلب کے لیے ایک مجموعہ تیار کیا ہے تو میرا بھی جی چاہا کہ اس انجمن میں برکت کے لیے شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مصنف کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اہل اللہ کے خوبصورت راستہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔

میاں غلام صغدر چشتی

بالا شریف (میانوالی)

## تقریظ

شمس الفضلاء والعلماء، حامی فکر اولیاء، صاحب علم و حکمت، شیخ الحدیث  
مولانا صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ

جامعہ رسولیہ شیرازیہ لاہور

یوں تو اس دنیا میں بڑے بڑے دولت والے شہرت والے  
حکومت والے اقتدار والے آئے۔ ضروری نہیں کہ زمین ان کے وجود  
سے خوش ہو بعض لوگ زمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو زمین پناہ مانگتی ہے۔  
کہ ایسے برے آدمی کے پاؤں پھر نہ مجھ پر پڑیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں  
کہ جب زمین پر قدم رکھتے ہیں تو زمین ان کے قدموں کو چومتی ہے اور  
خواہش کرتی ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ پھر بھی کبھی گزرے درویش صفت  
نوجوان قاری عبدالحق حسنت صاحب المعروف حسینی بادشاہ کی کتاب  
زینت العاشقین و انتظار المحبوبین سے کچھ پڑھنے کے بعد تقریظ کے طور  
پر امام اہلسنت علیہ الرحمۃ کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ رونق بزم جہاں  
ہیں، عاشقان سوختہ کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ

لہانا سے  
شیرازیہ  
جامعہ رسولیہ شیرازیہ

## تقریظ

فخر المشائخ، شیخ المشائخ، شمس المشائخ، معدن عشق و محبت،  
سرچشمہ طریقت، صاحب ولایت، پیر طریقت،

پیر سید دیوان آل حبیب علیخان شاہ صاحب مدظلہ العالی

سجادہ نشین اجیر شریف، حال مقیم آستانہ عالیہ کلشن سلطان الہند اجیری،

مکرمی محبی قاری عبدالحق حسنت صاحب کی کتاب زمینت العاشقین و  
انتظار المحبوبین کو سرسری انداز میں پڑھنے کا موقع ملا۔ ماشاء اللہ بہت اچھی  
کاوش ہے۔ خاص طور پر حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین (رضی اللہ  
عنه) سے جس جذبہ اور محبت کا اظہار کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ دعا ہے  
اللہ تعالیٰ خواجگان چشت اہل بہشت خصوصاً جدی و مولائی حضور خواجہ غریب  
نواز سلطان الہند حضرت سید معین الدین چشتی اجیری کے طفیل مولانا  
عبدالحق حسنت صاحب کو دینی دنیوی و اخروی نعمتوں سے نوازے۔

بزرگوار  
صاحب دیوان آل حبیب علیخان  
سجادہ نشین اجیر شریف  
دو غم ۱۶/۱۱/۲۰۱۳  
پیر سید دیوان شاہ صاحب مدظلہ العالی

## تقریظ

استاذ الجودین، سند الجودین، امام الجودین

قاری محمد یوسف سیالوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی

سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ اصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

اما بعد کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کے مصنف جناب قاری  
عبدالخالق حسنت صاحب تشریف لائے اور کتاب کا مسودہ دکھایا۔ بندہ  
چونکہ اس فن سے نابلد ہے اس لیے کچھ لکھنے کے قابل نہیں۔ البتہ اللہ  
رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مصنف کی خواہش کے  
مطابق اسے نفع بخش بنائے۔

آمین بجاہ طہ و یسین

حرمہ محمد یوسف سیالوی

حامی طہ و یسین

## تقریظ

بحر علم و عرفان، صاحب علم و عرفان، منبع علم و عرفان، عرفان العلماء، میر طریقت

پیر سید محمد عرفان ناصر چشتی صاحب، مدظلہ العالی

الحمد لله حق حمدہ والصلوة والسلام علی سبتنا و رسولہ و عبہ و علی

الہ و صحبہ و من اہلتہ بعدہ و استن بسنة

احقر العباد نے زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کے چند صفحات کا مطالعہ

کیا اور قلبی سکون پایا۔ یہ یقیناً اللہ کے فضل و کرم اور نبی پاک صاحب

لولاک فخر موجودات حضرت محمد ﷺ کی خصوصی عنایت ہے کہ مصنف نے

بہت بڑا کام کیا اور کتاب میں عارفانہ، صوفیانہ، فقیرانہ، درویشانہ، قلندرانہ،

عالمانہ اور مجاہدانہ رنگ اختیار کیا جو یقیناً قلوب و اذہان کو منور و روشن

کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور ظاہری و باطنی پاکیزگی کا باعث ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات مصنف کو دین و دنیا کی نعمتیں اور

برکتیں عطا فرمائے۔ آمین

سید محمد عرفان ناصر چشتی

جامعہ علویہ انوار مدینہ

حنیف ٹاؤن ڈیرہ اسماعیل خان

## تقریظ

حسین اہلسنت، سرمایہ اہلسنت

مفتی حبیب الرحمن رضا قاسمی مدظلہ العالی

الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی سید المرسلین

خاکسار نے کتاب ”زینت العاشقین و انتظار المحبوبین“ کو متفرق مقامات سے پڑھا ہے، احقر افکار کے انبار کی روشنی میں اس نہج تک پہنچا ہے کہ یہ کتاب فلاح انسانیت میں مدد و معاون ثابت ہوگی۔ اگر بزم دل میں یادِ الہی کا سورج روشن کر کے پڑھی جائے۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصنف اور پڑھنے والوں کی زندگی کو رحمانی زندگی میں شمار کر لے۔ آمین

مفتی حبیب الرحمن رضا قاسمی

قاسمیہ زاہدیہ اسلامک سنٹر

اڑوال سہتی ضلع بھمبر AK

## تقریظ

سنداً للتحقیقین، منتخبی اہلسنت، مفکر ملت

حضرت علامہ مفتی محمد نواز شمدنی العطارى مدظلہ العالی

مدرس جامعہ المدینہ، G-11 مرکز اسلام آباد

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیتہ المرسلین

اما بعد کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین بعض مقامات سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ساتھ ہی مصنف سے کتاب کے بارے میں گفتگو بھی ہوئی جس سے اندازہ ہوا کہ مذکورہ کتاب علماء صوفیاء اور عوام الناس سب ہی کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ کتاب کو فیوض و برکات کے حصول کے لیے پوری دل جمعی سے مطالعہ کیا جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل قاریان کتاب کو حقیقی نفع دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین

بجاہ النبی الامین ﷺ۔

سگ عطار محمد نواز شمدنی العطارى

مدرس جامعہ المدینہ، G-11 مرکز اسلام آباد



## تقریظ

عمدۃ المصنفین، شیخ الحدیث و الشیخ، قاری القراء،

مفتی غلام حسن قادری صاحب

مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف، لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الصلوة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی الیک و اصحابک یا

سیدی یا حبیب اللہ

حضرت مولانا قاری عبدالحق حسنت صاحب کی کاوش قابل داد ہے۔ قابل دید بھی ہے اور قابل تحسین و تقلید بھی ہے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ چند مقامات پڑھنے کا موقع ملا ہے اور تقریظات پر ایک نگاہ ڈالی ہے۔ ماشاء اللہ دور داری کا سفر کر کے علماء و مشائخ کی تقریظات کا انبار اکٹھا کیا ہے۔ یقیناً اس کتاب میں ان تمام بزرگوں کا فیض شامل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی اس سعی جمیل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور عوام و خواص کو اس سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے ایں دعامن واز جملہ جہاں آمین باد۔

غلام حسن قادری  
مرکز دارالعلوم حزب الاحناف، لاہور

## تقریظ

صاحب طریقت، مفتی اہلسنت، مفتی ملت، سدا العلماء، استاذ العلماء

مفتی محمد حسین چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ

نواب۔ ڈیرہ اسماعیل خان

حضرت مولانا قاری عبدالخالق حسنا المعروف حسینی بادشاہ مصنف  
زینت العاشقین و انتظار المحبوبین نے جس ذوق و شوق و جذبہ کا اظہار  
اپنے اشعار و افکار کے ذریعے کیا وہ قابل داد ہے۔ میں اس تصنیف اور  
کوشش کی داد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور  
جذبے کو قبول و منظور فرمائے۔

محمد حسین چشتی صاحب

ناظم اعلیٰ جامعہ غوثیہ چشتیہ مہر العلوم

مہر آباد نزد بابائی پاس سدا بہار کالونی۔ نواب ڈیرہ اسماعیل خان

## تقریظ


بیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر اخلاص و محبت

حضرت پیر سید الحاج میاں ریاض احمد شاہ صاحب

سجادہ نشین آستانہ عالیہ، چاہ میاں، ضلع میانوالی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کو پڑھا اور بہت ہی مفید پایا۔ کتاب ہذا میں دیے گئے مضامین نادر و نایاب ہیں۔ اس کا نام ہی اتنا دلچسپ ہے کہ جو بھی عاشق سنتا ہے اس کے دل پہ ضرب لگتی ہے اور بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اب میرا محبوب میرے قریب آ چکا ہے۔ فقیر کی کتاب کو ملاحظہ کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ تصوف کی روح اس کتاب میں موجود ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔



## تقریظ

شیخ التجوید، تنویر القراء، قاری اعظم

قاری محمد اعظم چشتی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ماشاء اللہ بندہ ناچیز نے پیکر مہر و وفاء قاری عبدالحق حسنت حسینی بادشاہ کی تصنیف کردہ کتاب زینت العاشقین و انتظار و المحبوبین کی مختلف جگہوں سے ورق گردانی کی ہے۔ یہ کتاب مرج البحرین معلوم ہوتی ہے۔ محترم قاری صاحب نے بڑی محنت اور لگن سے تحریر کی اس کتاب کو اگر ہم لوگ پڑھیں گے تو انشاء اللہ اس میں ہماری راہنمائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ لکھنے والے قاری صاحب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں وسیلہ حضور نبی کریم ﷺ قبول فرمائے۔

محمد اعظم چشتی،

مدرسہ معین القرآن گوجرانوالہ

## تقریظ

صاحبِ بحر و نیاز، قاری ملت، قاری اہل سنت، دنیائے اہلسنت کے روحانیت یافتہ قاری

قاری محمد اعظم نورانی صاحب مدظلہ العالی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا المرسلين و على اله

وصحبه اجمعين

خاکسار نے محترم جناب حسینی فقیر عبدالخالق حسنا حفظہ اللہ کی کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کا طائرانہ مطالعہ کیا اور مفید پایا۔ ناچیز نے اپنی زندگی خاص کر تعلیمی و تدریسی زندگی میں جو کہ عرصہ ۲۲ سال پر محیط ہے، ایسے مرد واحد کو نہ پایا۔ موصوف انتہائی نیک انسان درویش صفت علم دین ہے۔ موصوف کی لکھی گئی کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین میں آپ نے عالمانہ عاشقانہ، درویشانہ رنگ اپنایا ہے اور یہ کہ جس موضوع پر کتاب تصنیف فرمائی ہے اس طرح کا کام اس سے پہلے کم ہی ہوا ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ اس کتاب کا قاری خود بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے عشق میں رنگے گا اور دوسروں کے لیے بھی فیض رساں ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم اپنے محبوب ﷺ کے صدقے اس کتاب کو ہر خاص و عام کے لیے نافع بنائے۔ آمین۔

محمد اعظم نورانی

## تقریظ

فاضل جلیل، خطیب ملت، پیکر روحانیت، صاحب تصوف و بصیرت، پیر طریقت، محقق اہلسنت  
حضرت علامہ ضمیر احمد نقشبندی۔ مدظلہ العالی، آزاد کشمیر، کوٹلی

### بسم اللہ الرحمن الرحیم

میری ملاقات ۱۶ ربیع النور ۱۴۳۸ھ کو صوفی باصفا فقیر احصر حضرت علامہ  
مولانا قاری عبدالحق حسنا سے اسلام آباد میں ہوئی۔ ان کی تصنیف  
زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کو میں نے اول سے آخر تک پڑھ کر یہ  
نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کتاب مصنف نے نادر اور نایاب لکھی ہے۔ اس کتاب  
کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصنف نے اس کو تصنیف کرتے وقت فنا  
فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ کر تصنیف کیا۔ یہ  
کتاب علم تصوف سے ناواقف لوگوں کے عقل سے ماورا ہے۔ عزیز من  
اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کسی مرد درویش کی صحبت اختیار کر۔ اللہ تعالیٰ یہ  
کتاب لکھنے پر مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی روحانیت میں  
مزید اضافہ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین

ضمیر احمد نقشبندی

## تقریظ

فاضل جلیل، خطیب ملت، مقرر اہلسنت

حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب ہاشمی صاحب

فقیر کو قاری عبدالحق حسنت کی تصنیف زینت العاشقین و  
انتظار المحبوبین کے چند اوراق کا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا۔ جس میں  
تصوف، تعویذات اور دلکش ناموں کے پرتا شیر نقوش پر نظر پڑی اور اس  
تصنیف کو نایاب پایا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قارئین کے لیے  
کتاب کو فائدہ مند بنائے۔

خادم درگاہ گیلانیہ قادریہ سدرہ شریف

محمد یعقوب ہاشمی

ناظم اعلیٰ جامعہ سید العلوم رزاقیہ دربار سدرہ شریف

## تقریظ

مدرس عصر، نجم القراء

قاری محمد شفقت اللہ قادری صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

احقر نے حسینی فقیر قاری عبدالخالق حسنت کی تصنیف زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کے اکثر مقامات کو دیکھا۔ راحت پائی کیونکہ اس تصنیف کا نام بھی راحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس تصنیف کا نام سن کر صاحب بصیرت آدمی کو پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یقیناً محبوب کی بارگاہ میں یہ ضرور مقبولیت پائے گی اور فقیر کہتا ہے کہ ایسی تصنیف کی اس وقت اشد ضرورت تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دلی دعا ہے کہ حسینی فقیر قاری عبدالخالق حسنت حسینی بادشاہ کی بصیرت میں مزید اضافہ فرمائے۔ آمین

قاری محمد شفقت اللہ قادری

چاہ حسین خان پروا ڈیرہ اسماعیل خان



## تقریظ

شمس المقرین، خطیب ملت، مقبول اولیاء، شمشیر اولیاء، فاضل اجل، خطیب بے بدل

حضرت علامہ محمد مقبول احمد قادری مدظلہ العالی

ڈیرہ اسماعیل خان

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید الاولین والاخرین و

علی اله و اصدقبه و اهل بیتہ اجمعین اما بعد

بندہ ناچیز نے کتاب مستطاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کا مطالعہ کیا۔ امید ہے کہ اس کتاب کو اخلاص محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھنے والوں کو حیات جاویدانی نصیب ہوگی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مصنف کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین!

حررہ اس چند سطور

محمد مقبول احمد قادری


## تقریظ

سند القراء، تاج المجودین

قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بندہ ناچیز نے اس کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کے کچھ مقامات کو پڑھا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مصنف کی کتاب کو مقبولیت عطا فرمائے۔

  
۱۲-۱۱-۲۰۲۵  
بسم فیروز گڑھی، ۱۲-۱۱-۲۰۲۵

## تقریظ

پیکر عجز و نیاز، سلطان القراء، استاذ الحفاظ، دنیائے اہل سنت کے عظیم قاری

قاری محمد فاروق سیالوی صاحب مدظلہ العالی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محترم جناب حسینی فقیر حافظ قاری عبدالحق حسنت زیدہ مجدہ نے جو  
زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کتاب تصنیف فرمائی ہے اس سے حرف  
بحرف پڑھا اور بے نظیر پایا۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا اس کتاب  
کو امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند بنائے۔ آمین

قاری محمد فاروق سیالوی

خطیب جامعہ مسجد

سہراب خیل بلوچیل میا نوالی

## تقریظ

تاج الجودین، صاحب روحانیت

قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب مدظلہ العالی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محترم جناب حسینی فقیر عبدالحق حسنا صاحب کی تصنیف کردہ کتاب زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کے چند مقامات کا مطالعہ کیا۔ ماشاء اللہ بڑے احسن انداز کے ساتھ اس کتاب کے اندر تصوف اور تعویذات کو نمایاں کیا ہے۔ جس میں دور جدید کے تقاضوں کو بڑی محنت کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو لوگ ان علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس کتاب کے مصنف کو اجر و ثواب عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔

غلام مصطفیٰ نعیمی

حورین، جامعہ صوفیہ، نجل آباد

## تقریظ

پاسبان مسک رضا، صاحب علم و تقویٰ، منبع اخلاص و محبت، پیر طریقت، رہبر شریعت،

حضرت علامہ پیر صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب مدظلہ العالی

سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم

درویش صفت نوجوان مولانا قاری عبدالحق حسنت صاحب کی کتاب (اور اس پر بعض علماء و مشائخ اہل سنت کی تقاریر) بعض مقامات سے پڑھنے کا موقع ملا۔ قاری صاحب موصوف نے کتاب لکھنے کے لیے جو محنت کی، دور دراز سفر اور مجاہدے کئے اور پھر کتاب میں جس درد دل کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب ﷺ کے صدقے قبول فرمائے۔ مولانا قاری عبدالحق حسنت صاحب کے حکم و اسرار پر چند سطور لکھنے کی جرأت ہوئی وگرنہ من آنم کہ من دانم۔

ر: م خادیم آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ  
 دلی مکمل حضرت نبی ﷺ رحمۃ اللہ علیہ  
 صاحبزادہ محمد داؤد رضوی  
 دارالمدینہ کراچی

## تقریظ

پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف اسرار طریقت، فخر السادات

پیر سید فخر سلیمان شاہ بخاری مدظلہ العالی

الحمد لله رب العالمین و الصلوٰۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و

علیٰ آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ کاملین الاوائلین

اما بعد میں نے زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کا مطالعہ کیا۔  
بہت لطف آیا کیونکہ ازل تا ابد ہر کسی کو کسی نہ کسی کا انتظار ضرور رہا ہے اور  
حقیقتاً اس کتاب کا نام زینت العاشقین و انتظار المحبوبین ہی ہونا چاہیے تھا  
کیونکہ اس کتاب میں ابواب ہی ایسے دیئے گئے ہیں۔ اس کتاب کے  
نام سے ہی علم ہو جاتا ہے کہ مصنف کو وحدہ لا شریک کے خزانوں سے علم  
کا بہت بڑا خزانہ عنایت ہوا ہے۔ کیونکہ مصنف نے بہت سے پیچیدہ  
رازوں کی رونمائی کی ہے اور طالبین علم کی بہت سی مشکلوں کو آسانیوں  
میں بدل دیا ہے اور مصنف کی مشقت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف سراپا  
جذبا و خدمتِ خلق ہیں اور سکندر اند مزاج کے مالک ہیں۔  
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کو بطفیل  
اپنے مقبولین کے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔

سید فخر سلیمان شاہ

## تقریظ

امام الصرف والنحو، مؤلف عصر، فاضل جلیل،

حضرت علامہ مولانا وسیم اکرم نقشبندی صاحب، اسلام آباد

نحمدہ ونصلیٰ و نسلم علیٰ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من

الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم

احقر کے پاس زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کے مصنف حافظ  
قاری عبدالحق حسنت صاحب تشریف لائے اور کتاب کا مسودہ پیش  
کیا۔ اور تاثرات لکھنے کا حکم فرمایا۔ کتاب ہذا کو چند مقامات سے مطالعہ  
کیا اور قلبی و روحانی سکون پایا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے مصنف کو حفظ  
قرآن، علوم دینیہ، ادب و آداب اور صوفیانہ مزاج کے ساتھ ساتھ تحریر کے  
فن میں بھی ملکہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مصنف کو اس  
سعی پر اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کتاب کو عوام الناس کے لیے نافع  
بنائے۔ آمین۔

احقر الصادق  
مستحق کمال  
نور کونین علیہ السلام  
نور کونین علیہ السلام  
نور کونین علیہ السلام  
نور کونین علیہ السلام

## تقریظ

معدن عشق و محبت، پیکر عشق و محبت، وقف انوار طریقت، محسن ملت  
صاحبزادہ ڈاکٹر انوار الحق بند یا لوی صاحب مدظلہ العالی  
آستانہ عالیہ بند یا ل شریف

عزیزم، محبی فی اللہ - عاشق صادق - صاحب ذوق و شوق - پیکر سوز و  
گداز حسینی فقر قاری عبدالحق حسانت المعروف حسینی بادشاہ صاحب  
سرزمین بنیال پر تشریف لائے۔ میری اشد مجبوریوں کی وجہ سے ان کو مجھ  
ناچیز کا طویل انتظار کرنا پڑا۔ تاہم ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ میرے جیسے  
ناقص آدمی کے منتظر رہے۔

ان کی کتاب ”زینت العاشقین و انتظار المحبوبین“ کے چند اوراق زیر  
مطالعہ آئے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نوجوان کا ذوق و شوق دیدنی ہے۔ یہ  
کتاب ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایک انوکھی طرز کی کتاب ہے جو اہل درد  
کے لیے تحفہ، اہل دل کے لیے تسکین، اہل ذوق کے لیے راحت جگر، اور  
اہل محبت کے لیے توشہ بھی ہے۔

اللہ کرے زور قلم اور زیادہ



---

دل کی نگاہوں سے پڑھنے والا بندہ اس کتاب سے بہت کچھ  
حاصل کرے گا۔ انشاء اللہ

اللہ جل شانہ حسینی فقیر جیسا ذوق و وجدان تمام غلامانِ رسول ﷺ  
کو عنایت فرمائے آمین اور اس وجدان کے فیضان سے میری نسل نوخیز کو  
مشرف فرمائے آمین۔ بجاہ سید المرسلین



## تقریظ

پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر روحانیت، صاحب بصیرت

پیر سید محمد سیف اللہ شاہ قادری کاظمی مدظلہ العالی

فقیر نے زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کا شروع سے آخر تک مطالعہ کیا اور بہت سرور پایا اس کے حیرت انگیز اور دل افروز عنوانات جس عمدہ طرز پر بیان ہوئے وہ قابل تعریف ہے۔ یہ تصنیف عمدہ ہی اتنی ہے کہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی صفت کو الفاظ کے دامن میں کیسے سمیٹا جائے۔ دعا ہے رب العزت اپنے مقبول بندوں کے طفیل مصنف کو اس کاوش کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ آمین

سید محمد سیف اللہ شاہ قادری مدظلہ العالی  
سجاد علی شاہ صاحب مدظلہ العالی  
روحانی عالم، معلم، نڈر و فریب

## تقریظ

مقرر دروڑاں، مقرر شعلہ بیاں، محقق عصر، محقق اہل سنت، خطیب اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت  
حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد منصور شاہ اویسی صاحب مدظلہ العالی  
سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ واحدیہ، مہتمم اعلیٰ مرکز اہل سنت، جامعہ غوثیہ واحدیہ۔ میانوالی شہر۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ

و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ﷺ

اما بعد

بندہ ناچیز پر تفصیر کترین خلائق نے عزیزم عزت مآب حافظ عبدالخالق  
حسنت صاحب زید مجدہ کی تصنیف زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کا  
طاہرانہ مطالعہ کیا ہے اس کتاب کو نافع الخلاق پایا ہے۔ مصنف نے  
انتہائی پیچیدہ مقامات کو احسن طریقہ سے حل فرما کر عامۃ الناس کے لیے  
ایک تحفہ بنا دیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا جو بھی قاری ہوگا۔ اس  
پر پیچیدگیاں کھل جائیں گی۔

صاحب مصنف کی انتہائی محنت، دلجمعی اور ان کے گہرے ذوق کا یہ عملی  
شاہکار ہے۔

کتاب مختلف ابواب پر مشتمل ہے جو قاری کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ بندہ ناچیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب تصنیف حافظ عبدالخالق حسنا صاحب کی قلم، ذوق و شوق، عقیدت محبت اور لگن میں مزید اضافہ فرمائے تاکہ وہ اپنی قلم کے ذریعہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتے رہیں اور اس تصنیف کو ہم سب کے لیے بالعموم اور صاحب مصنف کے لیے بالخصوص ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ طہ، بیسین ص ۱۱۱۔

مرتبہ کا حکم  
- عینہ کتب خانہ  
- عینہ کتب خانہ  
- عینہ کتب خانہ  
- عینہ کتب خانہ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وعلى اله  
وصحبه. الحمد لله الذي زين النبي بحبيبه المصطفى ومن  
على المؤمنين بنبيه المجتبي الصلوة والسلام على رسوله  
محمد خير الوري المسير به من فوق العرش الى تحت الثرى  
الصلوة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين

## عارفانہ رنگ میں مقدمہ کتاب راحت العارفین حضرت عارف کھڑی علیہ الرحمۃ کی زبانی

جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھیں چنگے  
مالک دے در راکھی کردے صابر بھکھے ننگے  
جنہاں عشق خرید نہ کیتا اینویں آ بگتے  
عشقے باجھ محمد بخشا کیا آدم کیا کتے  
جے لکھ زہد عبادت کریئے بن عشقوں کس کاری  
جاں جاں عشق نہ ساڑے تینوں تاں تاں نہجے نہ یاری  
خشکی رستہ خشک عبادت بن سوزوں بن دردوں  
ایہہ عبادت ملکی بھائی ناہیں عارف مردوں

صوفیانہ چال میں احسن مقدمہ زینتِ صوفیاء  
حضرت عارف کھڑی علیہ الرحمۃ کے پُرتا شیر  
اشعار کے روپ میں

نوٹ: صوفیانہ چال کے اندر تحریر میں آنے والا احسن مقدمہ۔ دل زخمی  
لوگوں کے لیے حضرت عارف کھڑی رونقِ صوفیاء میاں محمد بخش علیہ الرحمۃ  
کی طرف سے نہایت ہی عمدہ تحفہ ہے۔

## فقیرانہ طرز پر تنبیہ

نہایت ہی عمدہ تختے کی پیش کش سے قبل ہی یہ لکھتے چلیں کہ اس گوہرِ  
نایاب کی تہہ کو جانچنا بے درد آدمی کی پہنچ سے بالکل باہر ہے۔

۱

نُمرے کُئل کو کو کر دے کیسی کوک سُناندے  
کتھے سُکھ مُحمد سُخشا بھرے جہان دُکھاندے

۲

دلبر مُکھ وکھاندا ناہیں داغ میڈا کس دھوناں  
ساجن دا دَر چھوڑ مُحمد کس دَر جا کھلوناں

۳

عشقی اندر صبر نہ رچدا سُورج میل نہ لگدی  
سکا رُوں نہیں کر سگدا پردہ پوشی اگ دی



۴

عشقتے دی ایہہ رسم تقدیمی جلیاں نوں نت جالے  
اگلا زخم نہ مولن دیندا ہور اتوں چا ڈالے

۵

عشقتے دا پیوند نہ ٹھدا جے جگ چھکے پھڑکے  
ڈاہڈے نال محمد بخشا کیس پھل پایا لڑکے

۶

ظالم عشق بے ترس قصائی رحم نہیں اس آوے  
نازک بدناں مار رولاندا سہم نہیں اس آوے

۷

دُکھ ملامت عشقتے اندر جیوں لکھ اندر اگے  
جیوں جیوں لکھ اگی وچ پائیے بھڑک زیادہ لگے

۸

بھیت ناں دسدی تے جنجھسدی کردی اے سنبھالا  
پر ظالم عشق محمد بخشا پردے پاڑن والا

۹

جسدے عشق لتاڑ گویا خاکو نال رولایا  
قدم چہماں گا عذر کراں گا جے اوہ نظری آیا

۱۰

جھولی پاء انگار محمد کوئی بچا ناں سکے  
عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے

۱۱

راتیں زاری کر کر روون نیند اکھیں دی دھوندے  
فجرے او گنہار کہاوں ہر تھیں نیویں ہوندے

۱۲

جنہاں اکھیاں دلبر ڈٹھا اوہ اکھیاں تک لیاں  
تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن اساں لگ پیاں

۱۳

دکھ سدا سکھ گاہ بگاہاں دکھاں توں سکھ وارے  
دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے

۱۴

موتوں سخت اڈیک بجن دی تلخی جان کندن تھیں  
نیندر بھکھ قرار صبر نوں کڈھے مار وطن تھیں

۱۵

ظالم درد وچھوڑے والا نام لیاں دلکینے  
بری اڈیک جدائی نالوں لوں لوں بلن لہنے

81

۱۶

دلبر دے وچھوڑے اندر اے رہیا میں زندہ  
اس گناہوں آخر توڑی سدا رہاں شرمندہ

۱۷

لمیں رات وچھوڑے والی پل جھل سکھیاں بھانے  
جو کوئی قید عشق دے اندر قدر اوہو کجھ جانے

۱۸

میں اڈار تیری تھیں ترٹی روساں وانگ کلنگاں  
لکھی سی تقدیر محمد پیا وچھوڑا سنگاں

۱۹

بھاری مرض محبت والی لگنیم نال قہمائے  
اتوں ضرباں مار وچھوڑا دم دم ہرج پہنچائے

۲۰

درد فراق سخن دے کیتا میں ہولا اک لکھوں  
لکھاں لکھ اڈاریں واڈ ایہہ بھی جان اک لکھوں

۲۱

کیہ گل آکھ سناواں سجاں درد فراق ستم دی  
آیا حرف لبائ پر جسد پھٹ گئی چہھ قلم دی

۲۲

شہر اجاڑ ڈھونڈیندے وتدے دلبر یار بغل وچ  
گنگے ڈورے کن زبانوں معنی سبھ عقل وچ

۲۳

کپڑا پھٹے تے لگے تروپاء دل پھٹے کس سیناں  
بجناں باجھ محمد بخشا کیا مرنا کیا جیناں

۲۴

دُنیا اتے آون میرا یاری کارن تیری  
جس کم آئیوں ہوندا ناہیں اس تھیں قبر بھلیری

۲۵

باغ بہاراں تے گل زاراں بن یاراں کس کاری  
بجن ملے دُکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھ واری

۲۶

دانشمنداں دا کم ناہیں دنیا تے دل لانا  
اس بہٹی لکھ خاوند کیہتے جو کیتا سو کھانا

۲۷

یار کرے جد اپناں تینوں چھٹن ہور آشنایاں  
ماں پیو بجن یاد نہ رہسن حرص نہ بھیناں بھایاں

83

۲۸

جے اوہ جان پیاری مینگے تر ت تلی پر دھردے  
سر لوڑے تاں سہل پچھان رتی عذر ناں کردے

۲۹

اندر عشق جلاندا جیوں کر آتش سکیاں پتاں  
مت نہیں دل میرا مندا مت ہن دیہو متاں

۳۰

میںوں بے وفائی اُسدی بہتر لکھ وفاؤں  
وڈے خطائی کول سجن دے بنیاں پاک خطاؤں

۳۱

جسنوں عشق کسے دا ہووے تس دے عیب نہ دسدے  
ختناں دے جو عاشق بندے عیب نہ ڈھونڈن اسدے

۳۲

عاشق دا جو دارو دسے باجھ ملاپ سجن دے  
اوہ سیاناں جان ایاناں روگ نہ جانے من دے

۳۳

عاشق نا امید نہ ہوون دن دن لمیاں آساں  
جے سو وار کھدیڑن ورتوں کوکن کدے نہ جاساں

---

84

۳۴

خنتی دل دی اُتے لکھے صورت نقش بجن دے  
دھوتے دور نہ ہوندے ہرگز ڈونگے اکھر من دے

۳۵

تساں کراؤ تو بہ عشقوں دے دے سکھاں میں  
دل میرا نہیں تو بہ کرا کہیے اگیرے وتیں

۳۶

جے کجھ تساں پڑھائے آہے علم کلام رسالے  
یاد نہیں اک حرف انہاں تھیں عشقے ہور سکھالے

۳۷

جاں جاں ساں نہ آس گواواں باس بجن دے لہساں  
یا ملساں یا مرساں تاہیں ہوء نچلا بہساں

۳۸

حوراں پریاں ناریں تک کے یا رولوں ناں ہساں  
دوہے جہان لہمن بن یاراں موڑ پچھاہاں سہساں

۳۹

جھماں درد عشق دا ناہیں کد پھل پان دیداروں  
جے رب روگ عشق دا لاوے لوڑ نہیں کوئی داروں

85

۴۰

ہر کوئی عیش عمر دی کر دیا آپو اپنی جائی  
میں ڈھیلا ڈھیلا جوگا دائم بھائی

۴۱

آجناں منہ دس کدائیں جان تیڈے توں واری  
توہیں جان ایمان دے لے دا شدھ بن میں کس کاری

۴۲

کس دی انگل پھڑ کے ٹرساں کون سناں باتاں  
میںوں روز قیامت نالوں آیاں لمیاں راتاں

۴۳

جے تلوار میرے سر ماریں ڈھال نہ رکھساں اگے  
مت تیرے اعمال نامے وچہ نام میرا بھی لگے

۴۴

اوڑک اک دن مرنا بندے کیا کچھے کیا اگے  
نیت پریت تیڈی وچہ مویا پتہ بجن نوں لگے

۴۵

ہتھیں مار ہوواں قربانی کم تیرے سر لگے  
کھوہ پیا اے جیون میرا مرنا بھلا تہہ اگے

---

86

۴۶

طلب تیڈی تھیں مڑساں ناہیں جب لگ مطلب ہوندا  
یا تن نال ساڈے ملسی یا روح ٹرسی روندنا

۴۷

میں ہاں تیڈی خدمت والا نال نہیں کیوں کھڑدا  
اگ فراق تیری دے اندر کچرک جالاں سڑدا

۴۸

کون میری دل داری کرسی کون لیئے گا ٹھہراں  
کس نوں ڈکھڑے پھول سناساں پڑھ پڑھ زبیراں زبیراں

۴۹

جے محبوب پیارا اک دن وسے نال اساڈے  
جاناں آج ہما کپھیرو پھاتھا جال اساڈے

۵۰

حوراں تے غلمان بہشتی چاہے خلقت ساری  
تیرے باجھ محمد مینوں ناں کوئی چیز پیاری

۵۱

جس دل اندر عشق سماں اوس نہیں پھر جاناں  
توڑے سوھنے ملن ہزاراں ناہیں یارو ٹاناں

87



۵۲

ہر دم ذکر سخن دے اندر کل جہاں بھلاون  
دلجانی دے عشقے کولوں اپنی جان رلاون

۵۳

فیر خلاصی منگدے ناہیں جو قیدی دلبر دے  
پھاہی تھیں گل کڈھدے ناہیں ہوئے شکر اس گھر دے

۵۴

کچھ وساہ نہ ساہ آئے دا مان کیہا پھر کرناں  
جس جسے نوں چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندرونچ دھرناں

۵۵

سدا نہ باغیں بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں  
سدا نہ حسن جوانی قائم سدا نہ صحبت یاراں

۵۶

سدا نہ رست بازاریں کسی سدا نہ رونق شہراں  
سدا نہ موج جوانی والی سدا نہ ندکیں لہراں

۵۷

سدا نہ لاٹ چراغاں والی سدا نہ سوز پتنگاں  
سدا اڈاراں نال قطاراں رہسن کد کلنگاں

۵۸

اساں انہاں کد ملنا مڑ کے پئی ہمیش جدائی  
روون پھل محمد بخشا رج ناں شاخ ہنڈائی

۵۹

سدا نہ روپ گلاباں اتے سدا نہ باغ بہاراں  
سدا نہ بھج بھج پھیرے کرسن طوطے بھور ہزاراں

۶۰

سدا نہیں ہتھ مہندی رتے سدا نہ چھنکن ونگاں  
سدا نہ چھوپے پاء محمد رل مل بہناں سنگاں

۶۱

لوئے لوئے بھرلے کڑیے جے تده بھاڈاں بھرناں  
شام پئی ہنشاں محمد گھر جاندی نے ڈرناں

۶۲

عشق تیڈے دے رستے اندر جے لکھ سختی ہساں  
رنج ہو کے اک قدم نہ ہساں پھیراوتھے ول ڈھیاں

۶۳

رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہ منزل پگ دا  
جے لکھ محنت ایویں کریئے کلر کول نہ اگ دا

89

۶۴

فجری ویلے کالی کولے ناں بول غماں دی بولی  
ناں وس تیرے ناں وس میرے لکھیا پئے گیا جھولی

۶۵

دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نوں کی خبراں  
یار جنہاں دے موت نے مارے اہ تک تک روون قبراں

۶۶

ناں رو اکیو ڈک لو اتھرو کی بن دا بے رویاں  
دکھ بندے دے مکدے ناہیں اے مکدے بے مویاں

۶۷

دنیا نال نہ گئی کسے دے ٹر ٹر گئے اکھلے  
اوہو بھلے جنہاں چھنڈ رکھے اس دھوڑوں ہتھ پلے

۶۸

میں انھاں تے تلکن رستہ کیونکر رہے سنبھالا  
دھکے دیون والے بہتے توں ہتھ پکڑن والا

۶۹

آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیاہی  
پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی

---

90

۷۰

ہور کے کچھ ہوسی نیکی تے توشہ خرچ قبردا  
میںوں بکو نام تساڈا گہناں روز حشر دا

۷۱

واہ واہ بھاگ تنہاں دے جہناں دلبر کول وسیرا  
چیوندیاں وی رہن اکٹھے مویاں ہووے ہک ڈیرا

۷۲

واہ واہ میراں شاہ شہاں دا سید دوہیں جہانی  
غوث الاعظم پیر پیراں دا ہے محبوب ربانی

۷۳

ولی اللہ دے مردے ناہیں کردے پردہ پوشی  
کی ہویا جے دنیا کولوں ٹر گئے نال خاموشی

۷۴

مرد ملے تاں درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردا  
کامل لوگ محمد بخشا لعل بناں پتھر دا

۷۵

لئے جہناں اساں توڑ نبھائی جاں دتی راہ تیرے  
حشر دھاڑے شرماں رکھ لئیں پردے کج لئیں میرے

.....

انوکھے راز اور فقیرانہ انداز میں شاندار مقدمہ  
زینت الفقراء و محبوب القراء حضرت سلطان العارفین  
محبوب المتقین حضرت سخی سلطان باہو علیہ الرحمۃ کے  
شاندار کلام کی روشنی میں

۷۸۶

ایمان سلامت ہر کوئی مئے اتے عشق سلامت کوئی  
منگن ایمان شرامون عشقوں دل نوں غیرت ہوئی  
جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان نوں خبر نہ کوئی  
میرا عشق سلامت رکھیں باہو ایمان نوں دیاں دھروئی

۷۸۶

بغداد شہر دی کیا نشانی اُچیاں لیاں چیراں  
تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں  
انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رساں سنک فقیراں  
بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہوتے کرساں میراں میراں

۷۸۶

باہجہ حضوری نہیں منظوری توڑے پڑھن بانگ صلاتاں  
روزے نفل نماز گزارن توڑے جاگن ساریاں راتاں  
باہجہوں قلب حضور نہ ہووے توڑے کدھن سے زکاتاں  
باہجہ فنا رب حاصل ناہیں باہوناں تاثیر جماعتاں

۷۸۶

جو پاکی بن عشق ماہی دے سو پاکی جان پلیتی  
ہک بت خانے واصل ہوئے ہک خالی رہے مسیتی  
عشق دی بازی تنہاں لئی جہاں سردتیاں ڈھل نہ کیتی  
ہرگز دوست نہ ملدا باہو جہاں ترٹی چوڑ نہ کیتی

۷۸۶

چڑھ چناں توں کر روشنائی تے ذکر کریندے تارے  
گلیاں دے وچ پھرن نماں لعلوں دے ونجارے  
شالا مسافر کوئی نہ تھیوے ککھ جناں تھیں ہمارے  
تاڑی مار اڈانہ سانوں باہو اساں آپے اڈن ہارے

۷۸۶

چڑھ چناں تے کر روشنائی تارے ذکر کرین بہتیرا  
تیرے جہے چن کئی سے چڑھدے سانوں جناں باجھ اندھیرا  
جتھے چن اساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کجھ تیرا  
جسدے کارن اساں جنم گویا (حضرت باہو) یار ملے ہک پھیرا



۷۸۶

دودھ تے دھی تاں ہر کوئی رڑکے عاشق بھارڑ کیندے  
تن چٹورا من مدہانی آپں نال ہلیندے  
دُکھاں دا نتیرا کڈھے لسکارے غماں دا پانی پیندے  
نام فقیر تنہاں دا (حضرت بابو) جہڑے ہڈاں توں مکھن کڈھیندے

۷۸۶

دل دریا سمندروں ڈونگھے کون دلاں دیاں جانڑے  
وچے بیڑے وچے جھیڑے وچ ملای مہانڑے  
چوداں طبق دلے دے اندر جیتھے عشق تنبو وچ تانڑے  
فاضل سٹ فضیلت بیٹھے باہو جدوں دل لگا ٹھکانڑے

۷۸۶

زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی  
جتھے کلمہ دل دا پڑھیے زبان پلے نہ ڈھوئی  
دل دا کلمہ عاشق پڑھدے کی جانے یار گلوئی  
ایہہ کلمہ مینوں پیر پڑھایا (سوہنڑاں حضرت باہو) میں سدا سہاگن ہوئی

۷۸۶

کر عبادت کجھ حاصل ہوئے تیری ضائع گئی جوانی  
عارف دی گل عارف جانے کیہ جانے نفسانی  
راتیں رتی نیند نہ آوے دہنہاں رہے حیرانی  
واہ نصیب تنہاں دے (حضرت باہو) جہاں ملیا پیر جیلانی

۷۸۶

میں کوچھی میرا دلبر سوہنٹراں میں کیونکر اس نوں بھانواں  
ویہڑے اساڈے وڑدا ناہیں پئی لکھ وسیلے پانواں  
ناں میں سوہنی نہ دولت پلے کیونکر یار مناواں  
ایہو دُکھ ہمیشہ رہسی باہو روندی نہ مر جانواں

۷۸۶

نہیں فقیری جلیاں مارن سٹے لوک جگاون  
نہیں فقیری وہندی ندیاں سکیاں پیر لگاون  
نہیں فقیری اوچ ہوا دے مصلے پا ٹھیراون  
خاص فقیری ہوندی (سوہنڈاں حضرت باہو) دل وچ یار نکاون

عاشقانہ طرز پر شاہین مقدمہ

سند عشاق۔ آفتاب عشاق

زینتِ عشاق۔ سرتاجِ عشاق۔ عزتِ عشاق۔

رونقِ عشاق۔ راحتِ عشاق۔ حضرت خواجہ سیدی

غلام فرید علیہ الرحمۃ کے عاشقانہ کلام پر مبنی

اہم نوٹ:

حضرت قبلہ کے بلند رتبہ کلام کی رمزوں کو جانچنا بے درد آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔

اہلِ درد متوجہ ہوں:

آئیے حضرت قبلہ کے عاشقانہ کلام کی قسطوں کی صورت میں باقاعدہ پیش کش سے قبل تیر کا حضرت قبلہ کے دردوں کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں:

زینت العاشقین و انتظار المحبوبین	
جھلک ■	عشقِ مدر سے جو کوئی آیا
جھلک ■	تھیا خون اکھیں توں جاری
جھلک ■	ناں یار ملداناں موت آوے
جھلک ■	عشق ہے ساڈا دین ایمان
جھلک ■	پک ہے پک ہے پک ہے
جھلک ■	کو جھی میں کملی تیرے ناں دی
جھلک ■	ملاں نہیں کہیں کاروے
جھلک ■	سب و سرے علم علوم اسماں
جھلک ■	میں ساری جو تیڈی تینوں اچے وی اعتبار نہ آیا
جھلک ■	قسم خدا دی قسم نبی دی
جھلک ■	تیرے نام توں مفت وکانڈری ہاں

زینت العاشقین و انتظار المحبوبین	
جھلک ■	میڈا دین وی تو ایمان وی تو
جھلک ■	میڈا علم وی تو عرفان وی تو
جھلک ■	میڈا بخت تے نام نشان وی تو
جھلک ■	میڈی سرخی بیڑا پان وی تو
جھلک ■	میڈا اول آخر اندر باہر میڈا ظاہر تے پنہان وی تو

## ■ حضرت قبلہ کے کلام کی باقاعدہ پیش کش ■

### اول قسط

- ۱۱ میڈا عشق وی تو میڈا یار وی تو ▶
- ۱۲ میڈا دین وی تو ایمان وی تو ▶
- ۱۳ میڈا جسم وی تو میڈا رُوح وی تو ▶
- ۱۴ میڈا قلب وی تو جند جان وی تو ▶
- ۱۵ میڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن وی تو ▶

- میڈے فرض فریضے حج زکوتاں ▶ ۵
- میڈا صوم صلوة اذان وی تو ▶ ۵
- میڈی زہد عبادت طاعت تقوی ▶ ۵
- میڈا علم وی تو عرفان وی تو ▶ ۵
- میڈا ذکر وی تو میڈا فکر وی تو ▶ ۵
- میڈا ذوق وی تو وجدان وی تو ▶ ۵
- میڈا سانول مشہد اشام سلونراں ▶ ۵
- من موہن جانان وی تو ▶ ۵
- میڈا مرشد ہادی پیر طریقت ▶ ۵
- شیخ حقائق دان وی تو ▶ ۵
- میڈی آس امید تے کھٹیا وٹیا ▶ ۵
- میڈا تکیہ مانز تے ترانہ وی تو ▶ ۵
- میڈا ڈھرم وی تو میڈا بھرم وی تو ▶ ۵
- میڈا شرم وی تو میڈا شان وی تو ▶ ۵

- میڈا دکھ سکھ روونہ کھلنہ وی تو ▶ ۵
- میڈا درد وی تو درمان وی تو ▶ ۵
- میڈا خوشیاں دا اسباب وی تو ▶ ۵
- میڈا سوالاں دا سامان وی تو ▶ ۵
- میڈا احسن تے بھاگ سہاگ وی تو ▶ ۵
- میڈا بخت تے نام نشان وی تو ▶ ۵
- میڈا ویکھن بھالن چلچترہ جو چترہ ▶ ۵
- میڈا سمجھن تے جائز سجاو وی تو ▶ ۵
- میڈے ٹھڈڑے ساہ تے مونجھ منجھاری ▶ ۵
- بہنجاں دے طوفان وی تو ▶ ۵
- میڈے تلک تلو لے سیندھاں مانگھاں ▶ ۵
- میڈے ناز نہورے تان وی تو ▶ ۵
- میڈی مہندی کچل مساک وی تو ▶ ۵
- میڈی سرخی بیڑاپان وی تو ▶ ۵



- میڈی وحشت جوش جنون وی تو ▶ ۵۱
- میڈا گریہ آہ و فغان وی تو ▶ ۵۲
- میڈا اول آخر اندر باہر ▶ ۵۳
- میڈا ظاہر تے پنہان وی تو ▶ ۵۴
- میڈا شعر عرض توانی تو ▶ ۵۵
- میڈا بحر وی تو اوزان وی تو ▶ ۵۶
- میڈا فردا تے دیروز وی تو ▶ ۵۷
- الیوم وی تو الان وی تو ▶ ۵۸
- میڈا بادل برکھا کھمڑیاں گاجاں ▶ ۵۹
- میڈی بارش تے باران وی تو ▶ ۶۰
- میڈا ملک ماہیر تے مارو تھلوا ▶ ۶۱
- میڈی روہی تے چولستان وی تو ▶ ۶۲
- جے یار فرید قبول کرے ▶ ۶۳
- سرکار وی تو سلطان وی تو ▶ ۶۴

❖ ناتاں کہتر کتر احقر ادنیٰ ❖ ❖

❖ لاشے لامکان وی تو ❖ ❖

## دوم قسط

❖ اتھاں میں مٹھوی نت جان بلب ❖ ❖

❖ ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب ❖ ❖

❖ ہر ویلے یار دی تانگھ لگی ❖ ❖

❖ خجے سینے سک دی سانگ لگی ❖ ❖

❖ ڈکھی ڈڑی دے ہتھ تانگھ لگی ❖ ❖

❖ تھئے مل مل سول سمو لے سب ❖ ❖

❖ تھی تھی جو گن چودھار پھراں ❖ ❖

❖ ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں ❖ ❖

❖ سنج بار تے شھر بازار پھراں ❖ ❖

❖ متاں یار ملہم کہیں سانگ سبب ❖ ❖

- ۱۰۱ اتھال میں مٹھڑی نت جان بلب ▶
- ۱۰۲ سوہنڑاں خوش وسداوچ ملک عرب ▶
- ۱۰۳ توڑے دھکڑے دھوڑے کھانڈڑی ہاں ▶
- ۱۰۴ تیرے نام تے مفت دکانڈڑی ہاں ▶
- ۱۰۵ تیریاں بانڈڑیاں دی میں بانڈڑی ہاں ▶
- ۱۰۶ ہم دردیاں کتیاں نال ادب ▶
- ۱۰۷ واہ سوہنڑاں ڈھولڑے یار بجن ▶
- ۱۰۸ واہ سانول ہوت حجاز وطن ▶
- ۱۰۹ آ ویکھ فرید دا بیت حزن ▶
- ۱۱۰ ہم روز ازل دی تا نگ طلب ▶

### سوم قسط

- قسم خدا دی قسم نبی دی
- عشق ہے چیز لذیذ عجیب ▶
- لکھ لکھ سول ہزاراں دکھڑے
- سو شوکر جو آیم پکھڑے ▶
- بے شک ضرب حبیب ذیب
- عشق ہے چیز لذیذ عجیب ▶

- عمر نبھایم سر ڈیں دکھ دیں
- تپ دیں کھپ دیں دکھ دیں کھپ دیں
- پلڑے پیم نصیب نصیب
- عشق ہے چیز لذیذ عجیب

### چہارم قسط

- تن تنور ہڈاں دا بالتر اساں اہواں نال تپایا
- کپ کپ بکیاں اساں کیتے پیرے اتوں عشق پلیتھن لایا
- تن دی ہانڈی من دا ساں اتوں لوڑ صبر دا پایا
- غلام فریدا میں ساری جو تیڈی تیتوں اے وی اعتبار نہ آیا

### پنجم قسط

- پیا عشق اسا ڈری آن سنگت
- گئی شد مد زیر زردی بھت
- سب و سرے علم علوم اساں
- کل بھل گئے رسم رسوم اساں
- ہے باقی درد دی دھوم اساں
- سب و سرے علم علوم اساں

## ششم قسط

- کیا تھیا جو تیری ناں بنڑیں تھیںسی اوہا جو رب گنڑیں ▶
- دولت کوں چوچی لا اڑا ▶
- ٹھگ باز دا ڈکونہ کھا ▶
- آزاد تھی صفأ صفا
- چنڑ گھن سنجائیڈی انڑیں ▶
- کیا تھیا جو تیری ناں بنڑیں
- تھیںسی اوہا جو رب گنڑیں ▶
- دنیا دا ناں تھی آشنا
- ہے اے مکارہ بے وفا ▶
- کھانویں ناں مؤذن دا دعا ▶
- ہے پنج کنڑیں تیکوں گھنڑیں ▶
  
- کیا تھیا جو تیری ناں بنڑیں
- تھیںسی اوہا جو رب گنڑیں ▶
- ملاں نہیں کہیں کار دے ▶
- شیوے ناں جانڑن یار دے ▶
- سمبھن ناں بھیدا سرار دے ▶
- ونج کنڈ دے بھرنے تھئے دڑیں ▶
  
- کیا تھیا جو تیری ناں بنڑیں
- تھیںسی اوہا جو رب گنڑیں ▶

- ایں راہ ڈو آنویں ناں ہا▶
- جے آئیں قدم ڈہہو ڈہہو ودھا▶
- پچھوں تے ناں ویکھیں منہ والا▶
- حیلہ کریں سرتیں تڑیں▶
- کیا تھیا جو تیری ناں بنڑیں ■ تھسی اوہا جو رب گنڑیں▶

### ہفتم قسط

- وے سانولا نہ مارنیاں دے تیر▶
- اکھیاں شرکارنہ بکھیاں۔ ہن پاپی بے پیر▶
- وے سانولا نہ مارنیاں دے تیر▶
- ناز نہ ہو رے غمزے تیرے▶
- مصحف دی تفسیر ■ وے سانولا نہ مارنیاں دے تیر▶
- کوچھی میں کملی تیرے نانویں▶
- ناں کریا کریر ■ وے سانولا نہ مارنیاں دے تیر▶
- غوث قطب سب صدقے تیں توں▶
- کون فرید فقیر▶

## ہشتم قسط

- ہک ہے ہک ہے ہک ہے
- ہک دی دم دم سک ہے
- ہک دے ہر ہر جاوچہ دیرے
- کیا اچ ہے کیا جھک ہے
- ہک ہے ہک ہے ہک ہے
- ہک دی دم دم سک ہے
- جیزہا ہک نوں ڈوکر جانڑے
- اوہ کافر مشرک ہے

## نہم قسط

- ناصح ناہی نا تھی مانع
- عشق ہے ساڈا دین ایمان
- کنت کنزاً عشق گواہی
- پہلوں حب خود ذات کوں آہی جیں سانگے تھیا جمل جہان
- عشق ہے ساڈا دین ایمان

- عشق ہے ہادی پر مگر دا
- عشق ہے رہبر راہ فقر دا
- عشقوں حاصل ہے عرفان
- عشق ہے ساڈا دین ایمان
- احد اوہی احمد اوہی
- میم دے او لے ڈڑی مو ہے
- دھیان فرید رکھیں ہر آن
- عشق ہے ساڈا دین ایمان

## دہم قسط

- گیا رول روال وچ روہ راوے
- ناں یار ملدا ناں موت آوے
- بھینڈویں ناں بھانواں امڑی الاوے
- پیکے سور تے ہر کوئی ڈکھاوے
- جانی اوڑا پھیراناں پاوے، ہک کچھ ساڑے بیا تول تاوے
- گیا رول روال وچ روہ راوے
- ناں یار ملدا ناں موت آوے



- ❖ دکھڑے کسی نوں ڈیہو ڈینہہ سوائے
- ❖ جییں ڈینہہ بروچل گھر دوسدھائے
- ❖ مونجھیں منجھائے سولیں ستائے
- ❖ قادر کڈا ہیں وچھڑے ملائے
- ❖ مٹھڑی اکیلی سانول ناں بیلی
- ❖ لبھل نہ کردی سرتی سہیلی
- ❖ نظرے حویلی سنجوی دوہیلی
- ❖ مار و تھلاں دی والی سہاوے، ناں یار ملدا ناں موت آوے
- ❖ قسمت فرید اڈرتی ناں واری
- ❖ اصلوں پنل وال کیتم ناں کاری، کیڈے ونجے دل درداں دی ماری
- ❖ رور و بھائی جگ نوں رواوے، ناں یار ملدا ناں موت آوے

## یاز دہم قسط

- بولا بنسر کس نوں پاواں
- ڈھولنڑ کیتم نا منظور، کتھ نوں بیناں مانگھ بناواں
- کجلا پاواں سرنی لاواں، یارتی داوسرم دور
- ڈھولنڑ کیتم نا منظور، ناز نیاز اساڈی موڑی

- قبلہ قدمیں یار دی دھوڑی، حسن ازل دی چال غرور
- ڈھولنہ کیتم نامنظور، ملاں ویری سخت ستاون
- گجھڑے راز دا بھیت ناں پاون، بیوس شودے، بن معذور
- ملوانڑیں دے وعظ ناں بھانڑیں، بے شک اساڈا دین ایمانے
- ابن العربی دا دستور، ڈھولنہ کیتم نامنظور

### دواز دہم قسط

- رت روندیاں عمر نبھیاں، ایہا داغ قبر وچ نیساں
- گا تیر جگر وچ کاری، تھیا خون اکھیں توں جاری
- میں مٹھوی دکھڑیں ماری، ہے کیندے ساگ جلیساں
- رت روندیاں عمر نبھیاں، لکھا داغ قبر وچ نیساں
- اتھر ہنٹر نہ ڈیندیاں پیڑاں تھئے نیر بنجوں نک سیڑھاں
- ڈینہہ رات دکھان دیاں بھیڑاں
- ہنٹر موت دا ملک وسیساں، لکھا داغ قبر وچ نیساں
- ہڈ جالے تڑیں آہیں
- تن گالے ٹھڈڑیں ساہیں
- میں ویساں یار دے راہیں

- وچ کچھ فرید منڑیاں، رت روندیاں عمر نبھیاں ▶
- ایھا داغ قبر وچ نبھیاں ▶

### سینر دہم قسط

- سمبھہ سبھانڑیں غیر ناں جانڑیں ▶
- سب صورت ہے عین ظہور ▶
- فقہ اصول کلام معانی ▶
- منطق نحو تے صرف مہانی، ٹھپ رکھ ہے توحید غیور ▶
- سب صورت ہے عین ظہور ▶

### چہار دہم اور آخری قسط

- سکھ ریت روش منصورى نوں ▶
- ہنڑ ٹھپ رکھ کنز قدورى نوں ▶
- عشق مدر سے جو کوئی آیا ▶
- فقہ اصول دا فکر اٹھایا ▶
- بے شک عارف ہو کر پایا ▶
- رمز حقیقت پوری نوں، ہنڑ ٹھپ رکھ کنز قدورى نوں ▶

## درویشانہ طرز پر قابلِ تحسین مقدمہ

راحتِ اولیاءِ عزتِ اولیاء

رونقِ اولیاءِ زینتِ اولیاءِ واقفِ اسرارِ طریقتِ محبوبِ غوثِ الوری

آلِ رسولِ باغِ شریعت کے پھول

سیدی حضرت مہر علی شاہ علیہ الرحمۃ

کے پر کیفیتِ کلام کے اجالے میں

## پہلی فصل

### حصہ اول

اس صورتِ نوں میں جان آکھاں  
جان آکھاں کہ جانِ جہان آکھاں  
سچ آکھاں تے ربِ دی شان آکھاں  
جس شانِ توں شانِ سب بنزیاں

### حصہ دوم

ایہو صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزع تے روز حشر  
وچ قبر تے پل تھیں جد ہوی گزر  
سب کھوٹھیاں تھیں مذکھریاں

### حصہ سوم

لاہو مکھ تو حطط برد یمن  
من بھانوری جھلک وکھاؤ سجن  
اوبا مٹھڑیاں گالیں الاؤ سجن  
جو حمرا وادی سن کریاں

### حصہ چہارم

انہاں سکدیاں تے کرلانڈیاں تے، لکھ واری صدقے  
جانڈیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکانڈیاں تے  
شالا آون وت وی اوہ گھڑیاں

## دوسری فصل

### حصہ اول

روندیاں نیناں کوں سمجھا رہی  
لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی  
بکو نام بجن دا گا رہی

### حصہ دوم

مہر علی کیوں پھریں اداسی  
اج کل سوہنڑاں آگل لاسی  
ہوسن خوشیاں تے غم جاسی

## تیسری فصل

### حصہ اول

بھلدے نہیں اوہ بول مٹھڑے ڈھول دے  
بول سانول یار روہی رول دے

### حصہ دوم

بہانواں کول آکھاں بول وے ڈھول  
تیڈے بولن اتوں عالم کراں گھول

### حصہ سوم

وچھوڑا ناں کسے دے پیش آوے  
کسے دا ڈھول ناں پردیس جاوے

## حصہ چہارم

کوئی ہووے سیو کشتی مہاناں  
اساں سر پر بجز دے دیں جاناں  
ہوواں میں سگ مدینے دی گلی دا  
ایہا رتبہ ہے ہر کامل ولی دا  
دلا سمجھا توں، اکھیاں روندیاں نوں  
جگر دا خون بھر بھر کھوندیاں نوں  
رہی سمجھاتے آون باز ناہیں  
روون دھون تے دن راز ناہیں

## چوتھی فصل

کن فیکون تے کل دی گل اے اسی اگے پریت لگائی  
توں میں حرف نشان نہ آہا جدوں دتی میم گواہی  
اچے وی سانوں اوہ پے دسدے نیلے بوٹے کاہی  
مہر علی شاہ رل تاہیوں بیٹھے جہاں سک دوہاں نوں آہی



## باغِ شریعت کے پھول کے کلام کی پانچویں اور آخری فصل

رہندیاں پل پل سکاں دم دم اڈیکاں تیڈیاں  
کنڈ ولا ٹرگیوں سجواں پریتاں نہ پالیاں  
جھات پا کے ول گیوں ساری رین گزری روندیاں  
نمین برسن زار رم جھم جیویں بدلایاں کالیاں  
مہر ہے ساری علی دی شک نہ رہیا اک ذرہ  
تاہیں اور پیاں دسدیاں سانوں ماہی والیاں ٹالیاں

عالمانہ طرز پر دلچسپ مقدمہ

عزت علماء اسلام، واقف رموز شریعت

سفینہ تحقیق و کرامت، سند علماء حق

محدث بریلوی، محبِ غوثِ جلی

حضرت سیدی امام احمد رضا علیہ الرحمۃ

سرکار کے دل میں گھس جانے والے کلام کی شکل میں

خاص نوٹ، اہل درد متوجہ ہوں

آئیے قربان ہو جائیے حضرت قبلہ کے کلام کی باقاعدہ پیش کش سے قبل

تیر کا حضرت قبلہ کے عشق کے نظارے ملاحظہ کرتے ہیں

**نظارہ** ▶ دل ہے وہ دل جو تری یاد سے معمور رہا

**نظارہ** ▶ دل کو خداں سے جدا نہ کرے

نظارہ ► دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں  
تمہارے لیے

نظارہ ► تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

نظارہ ► جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار  
پھرتے ہیں

نظارہ ► عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی

نظارہ ► چاند اشارے سے ہو چاک

نظارہ ► مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا

نظارہ ► صبح طیبہ میں ہوئی بٹنا ہے باڑ انور کا

نظارہ ► تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا

نظارہ ► لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے

نظارہ ► رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے

نظارہ ► ترے خلق کو حق نے عظیم کہا تری خلق کو حق نے جمیل کہا

نظارہ ► کلام مجید نے کھائی شہا ترے شہر و کلام و بقا کی قسم

نظارہ ► وہ کمال حسن حضور ہے

نظارہ ► میں تیرے کلام پر

نظارہ ► کروں تیرے نام پہ جاں فدا

نظارہ ► اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ

نظارہ ► انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے

محدث بریلوی علیہ الرحمۃ سرکار کے کلام کی باقاعدہ  
پیش کش کی جاتی ہے

## اول پیشکش

اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے  
زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے  
انہیں کی بو مایہ سمن ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے  
انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے  
اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے  
وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے  
گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے  
اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے  
جلی ہے سوز جگر سے جاں تک ہے طالب جلوہ مبارک  
دکھا دو وہ لب کہ آب حیواں کا لطف جن کے خطاب میں ہے  
اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے

## دوم پیش کش

وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں  
یہی پھولِ خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں  
میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں  
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں  
کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا  
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں  
کروں مدحِ اہلِ دولِ رضا پڑے اس بلا میں میری بلا  
میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہٴ ناں نہیں  
وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں  
یہی پھولِ خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

## سوم پیش کش

ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ترے چہرہ نور فزا کی قسم  
قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم  
ترے خلق کو حق نے عظیم کہا تری خلق کو حق نے جمیل کیا  
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا ترے خالق حسن و ادا کی قسم  
وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا  
کہ کلام مجید نے کھائی شہا ترے شہر و کلام و بقا کی قسم  
ترا مسند ناز ہے عرش بریں ترا محرم راز ہے روح امیں  
تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا ترا مثل نہیں ہے خدا کی قسم  
ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ترے چہرہ نور فزا کی قسم

## چہارم پیش کش

لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے  
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے  
ترے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا  
وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے  
جناں بنے گی محبان چار یار کی قبر  
جو اپنے سینے میں چار باغ لے کے چلے  
لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے  
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے  
رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے  
تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے



## پنجم پیشکش

صبح طیبہ میں ہوئی بٹنا ہے باڑا نور کا  
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا  
باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا  
مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا  
بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا  
بارہ برجوں سے جھکا اک اک ستارہ نور کا  
صبح طیبہ میں ہوئی بٹنا ہے باڑا نور کا  
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا  
تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا  
رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا  
ترے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا

نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا  
صبح طیبہ میں ہوئی بٹنا ہے باڑا نور کا  
تری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا  
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا

## ششم پیشکش

عرشِ حق ہے مندرفعت رسول اللہ کی  
دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی  
قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے  
جلوہ فرما ہو گی جب طلعت رسول اللہ کی  
عرشِ حق ہے مندرفعت رسول اللہ کی  
سورج لٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک  
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی  
عرشِ حق ہے مندرفعت رسول اللہ کی  
دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی  
اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور  
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی

## ہفتم پیش کش

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں  
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں  
جو ترے در سے یار پھرتے ہیں  
در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں  
آہ کل عیش تو کئے ہم نے  
آج وہ بے قرار پھرتے ہیں  
اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں  
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں  
ہر چراغ مزار پر قدسی  
کیسے پروانہ دار پھرتے ہیں  
تیرے دن اب بہار پھرتے ہیں  
پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں

دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں  
لاکھوں قدسی ہیں کار خدمت میں  
لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں  
جو ترے در سے یار پھرتے ہیں  
در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں

## ہشتم پیش کش

زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکاں تمہارے لیے  
چنین و چناں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے  
وہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے  
ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے  
تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک  
زمین و فلک سماک و سمک میں سکھ نشاں تمہارے لیے  
زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکاں تمہارے لیے  
چنین و چناں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے

## نہم پیشکش

دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے  
بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے  
اس میں روضہ کا سجدہ ہو کہ طواف  
ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے

## منظہر غوثِ جلی کے کلام کی دہم اور آخری پیشکش

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا  
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا  
لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا  
میرے مولا مرے آقا ترے قربان گیا  
آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی  
ہائے وہ دل جو ترے در سے پر ارمان گیا  
دل ہے وہ دل جو تری یاد سے معمور رہا  
سر ہے وہ سر جو ترے قدموں پہ قربان گیا



## مجاہدانہ رنگ میں جامع مقدمہ

جیہڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے  
اج اُنہاں وی بازیاں ہاریاں نے  
جیہڑے ترسدے سی دیدنوں دے راتیں  
اج اُنہاں وی ہاریاں ماریاں نے  
جدوں باغ وچ خزاں نے وال کھولے  
پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے  
محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا  
سوہنڑیں نبی دیاں سچیاں یاریاں نے

(از زینت شعراء محمد بوٹا رحمۃ اللہ علیہ)

## قلندرانہ رنگ میں مختصر مقدمہ

عزت اولیاء۔ زینت اولیاء۔ راحت اولیاء۔ حضرت سیدی لعل

شہباز قلندر عثمان مروندی علیہ الرحمۃ کی زبانی

عثمان چوشد غلام نبی و چہار یار

امیدش از مکارم عربی محمد است

## مقدمہ تصنیف کا آخری منظر حقیر مصنف کی زبانی

مقدس تیری چوکھٹ سے نہیں دہلیز کوئی بھی

تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں تعویذ کوئی بھی

▶ تیڈی دید دی آس وچ مر ویساں ▶

▶ شودے قفص وانگوں سڑ ویساں ▶

▶ ہکے پوسن کیڑے گل ویساں ▶

▶ تیڈے عاشقاں دے وچ رل ویساں ▶

## تصنیف اردو میں تحریر کرنے کی وجہ

اے جان من کئی زبانوں کے حوالے سے دل شکستہ میں خیالات وارد ہوئے کہ اس زبان میں تصنیف تحریر ہونی چاہیے اور اس زبان میں تحریر ہونی چاہیے لیکن آخر کار اس بات کی بدولت اردو میں تحریر کر دی گئی کہ کہیں تو مشقت میں نہ پڑ جائے اور ایسا نہ ہو کہ تجھے پریشانی لاحق ہو جائے اور کہیں تو مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اے میری جان تیرے مشکل میں پڑنے سے دکھ تو پھر میرے دل کو ہووے گا نہ کہ غیر کے دل کو اس لیے تجھے مشکل میں پڑنے سے بچانے کے لیے تصنیف اردو میں تحریر کر ڈالی۔

## سبب تصنیف نہ بیان کرنے کی وجہ

اے جان من سبب تصنیف کے اظہار کی مصنف کو ان پاکباز فقیروں کی طرف سے اجازت ہی نہیں جن پاکباز فقیروں کے قدموں کی خاک مصنف چومتا رہتا ہے اور چوم چوم کر دل اور آنکھوں پر ملتا رہتا ہے اور جن کے انتظار میں مصنف کڑھتا رہتا ہے اور ترستا رہتا ہے اور جلتا

رہتا ہے۔ اے میری جان مصنف کو اگر سبب تصنیف کے اظہار کی اجازت ہوتی تو پھر بغیر کسی بخل کے اظہار کر دیا جاتا لیکن کاش کہ تجھے معلوم ہو کہ عاشقوں کی بھی مجبوریاں ہوا کرتی ہیں۔

اہل علم متوجہ ہوں

خدا نخواستہ اس کتاب میں کوئی ایسا لفظ تحریر ہو گیا ہو جو شریعتِ اسلام، صوفیاءِ اسلام، اولیاءِ اسلام، فقراءِ اسلام، اور علماءِ اسلام کی تعلیمات سے ٹکراتا ہو تو ایسے لفظ سے ہم بتوفیق اللہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رجوع کرتے ہیں۔

## شریعتِ اسلام اور خونِ حسین

اے عزت من جانچ لے تو کہ شریعتِ اسلام کی شانِ خونِ حسین سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اگر خونِ حسینِ اسلام سے زیادہ قیمتی ہوتا تو پھر پاک حسینِ خون بچا لیتے اور خون پر اسلام کو قربان کر دیتے لیکن امامِ عالی مقامِ امامِ حسینِ پاک نے اسلام کو خون پر قربان کیا ہی نہیں بلکہ خون کو اسلام پر قربان کر دیا۔ اے جانِ من معلوم شد کہ شریعتِ اسلام کی شانِ خونِ حسین سے بھی بڑھ کر ہے اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ نظریہ اور یہ مذہبِ حق ہے کہ خونِ حسین کی شانِ بلند و بالاتر، افضل و اعلیٰ اور بیان سے بھی اوپر ہے۔ لیکن یاد رکھ لے کہ اسلام کی شانِ امامِ علی مقامِ امامِ حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے خون کی شان سے بھی اوپر ہے۔ اے میری جانِ قربان ہو جائیے پاک حسین کے اس مقدس خون پر جس سے زیادہ قیمتی کسی کا خون ہے ہی نہیں۔

فقیری رنگ میں عظمتِ اسلام کا بیان رونقِ فقراءِ حق  
حضرت کفایت علی کافی علیہ الرحمۃ سرکار کے پر رونق  
اور پرتاثر کلام پر مبنی

کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا  
پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا  
ہم صغیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چچھا  
بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا  
اطلس و کنخواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو  
اس تین بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا  
نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں  
حشر تک نام و نشان پنچتن رہ جائے گا

کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا

پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا

جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود

آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا

سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک

نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا

کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا

پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا

از امام عشق و محبت شہباز ولایت حضرت سید کفایت علی کافی شہید علیہ الرحمۃ

**نوٹ۔** اب قوی امید کی جاسکتی ہے کہ عاشقوں نے بات بخوبی سمجھ لی

ہوگی، غیروں کو سمجھانا تو خیر مقصود ہی نہیں ہے۔

## قابل توجہ بات!

اے جان من تیری نظر میں جو سیاہ حروف آ رہے ہیں متوجہ ہونے

سے تجھے پتا چلے گا کہ تیری نگاہیں خون بھرے آنسوؤں پر پڑ رہی ہیں۔

## ٹوٹے ہوئے دل متوجہ ہوں

تعویذات کا سلسلہ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے نقشِ کامل کی پیش کش کی جاتی ہے۔

### نقشِ کامل

۷۸۶  
۹۲

۸	برشمانعت	۳	خودراو	۴	کامل کر دم
۱	من امروز	۵	وتمام کر دم	۹	اسلام را دین
۶	اختیار کر دم	۷	برای شما	۲	دین شمارا

الہی بجزمت نقشِ کامل

یہاں مقصد تحریر کریں۔



## خاص بات

اے جان من نقشِ کامل جس طرح منقول ہوا ہے بالکل اسی طرز پر تحریر میں لا کر بہت سے دلی مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جاسکتا ہے اور یہ بھی بتلاتے چلیں کہ نقشِ کامل کے خواص بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں۔

## انتہائی پر تاثیر نقش کی پیش کش

۷۸۶

تو شای ترا	البتہ متصل دشواری	فارغ شوی در عبادت خدا	آیا کشادہ نہ کردہ ایم
پس وقتیکہ از کاروبار	برای تو سینہ ترا	وبلند ساختیم برای	آسانی است
ودور کردیم	وبسوی پروردگار خود رغبت نما	پس ہر آئینہ متصل دشواری	بود پشت ترا
آسانی است	آں بار کہ گراں کردہ	از تو بار ترا	محنت کش

الہی بجزمتِ این نقش (یہاں مقصد تحریر کیجئے)

## اہل کشف متوجہ ہوں

زینت العاشقین و انتظار المحبوبین تصنیف میں جتنے بھی تعویذات و نقوش کی پیش کش کی جا رہی ہے سب کے سب اس صفت کے حامل ہیں کہ ان کے خواص کا بیان مصنف کی پہنچ سے دور ہے اور ان کے فوائد کے بیان سے مصنف قاصر ہے۔ جو کچھ ان تعویذات و نقوش کی بدولت ظہور میں آئے گا۔ دیکھ لیا جائے گا۔

## خاص توجہ

جان من اگر تجھے زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کے نقوش کے خواص جانچنے کی ضرورت ہے تو پھر اسی تصنیف کے آخری صفحات کے اس عنوان کی طرف توجہ کر عنوان یہ ہے۔

”تصنیف لطیف کے نقوش کے خواص کے اشارات۔“

## شاندار نقش کی پیش کش

۷۸۶

۹۲

شمر دن در باب جزای اعمال	قسم بانجیرو زیتون	مگر آنکہ ایمان آوردندو	پس ای آدمی چه چیز
از ہا فرو ماندگان	حمل میکند ترا بعد	این ہمہ پند بر دروغ	و قسم بطور سینا
و کارہای شایستہ کردند پس	پس گردانیدیم آن را فرودتر	و قسم باین شہر بہ امن	کنندہ ترین حاکمان
ہر آئینہ آفریدیم ادمی را	آیا نیست خدا حکم	ایشانراست اجر غیر نہایت	در نیکو ترین صورتی

الہی بخرمت نقش و شہر مکہ (یہاں اپنا مقصد تحریر کریں)

## نہایت عمدہ نقش کی پیش کش

۷۸۶  
۹۲

ویکد گیر اوصیت کردند	قسم بزمان	ویکد گیر اوصیت
بہ دین درست	و عملہای شایستہ کردند	در زیان است
کہ ہر آئینہ آدمی	کردند بہ شکیبائی	مگر آئینہ ایمان آوردند

## دل دوز نقش کی پیش کش

۷۸۶  
۹۲

دشمن تو ہمہ نست	کردیم ترا کوثر	پس نماز گزار
یا محمد	برای پروردگار خود	دم بریدہ
و شتر را خر کن	ہر آئینہ	ہر آئینہ ماعطا

الہی بخرمت نقش (یہاں مقصد تحریر کیجئے)

## خاص نقش کی پیش کش

۷۸۶

۹۲

ہر آئینہ	وقتیکہ بیاید	پس پیا کی	پروردگار خود
دین خدا فوج فوج	راو آمرزش	طلب کن ازوی	نصرت خداو
یاد کن	میشوند در	بظہور آید فتح	رجوع کنندہ
وہ بنی مردان	خدا هست برحمت	ہمراہ ستایش	راداخل

الہی بجزمت نقش اقدس (یہاں مقصد لکھیں)

## انتہائی اہم نقش کی پیش کش

۷۸۶  
۹۲

۱	۱۳	۱۱	۸
بگو پناہ	وازشر	سحر کنندہ	چون تاریکی
۱۲	۷	۲	۱۳
درگرہ	شب تاریک	می گیرم بہ	ہادم زنندہ
۶	۹	۱۶	۳
وازشر	اومنتشر شود	حسد کند	پروردگار صبح
۱۵	۴	۵	۱۰
حاسد چون	از شہر چہ	آفریدہ است	وازشر زمان

ابھی بجزمت نقش مبارک (یہاں مقصد لکھنیے)

## نقشِ حسین کی پیش کش

۷۸۶

۹۲

۱	۱۳	۱۱	۸
بگو پناہ	از جنس	وسوسہ می افگند	ذکر گفتم شد
۱۲	۷	۲	۱۳
در سینہ	اندازندہ چون	می گیرم بہ	ہای مردان
۶	۹	۱۶	۳
از شر وسوسہ	باز پس	جنس مردان	پروردگار مردان
۱۵	۴	۵	۱۰
باشد یا از	پادشاہ مردان	معبود مردان	رونندہ آنکہ

الہی بجزمت نقش مبارک (یہاں مقصد لکھئے)

نوٹ۔ کونوں میں دیئے گئے ہند سے صرف چال بتلانے کے لیے ہیں۔

## نقشِ اسلام

### ضروری بات

دردوں بھری داستان میں سے یہاں اتنا ضرور لکھا جاتا ہے کہ  
نقشِ اسلام کی قدر کسی قدر والے کے نصیب میں ہووے گی اور اسے  
فیضِ یابی کسی مقدر والے کے نصیب میں ہووے گی۔

۷۸۶

اسلام	اسلام	اسلام	اسلام
اسلام	اسلام	اسلام	اسلام
اسلام	اسلام	اسلام	اسلام
اسلام	اسلام	اسلام	اسلام

ابی بخرمتِ نقشِ اسلام



## مریدینِ عشق متوجہ ہوں

اب

حضرت عارف کھڑی علیہ الرحمۃ

جو عزت والوں کی عزت ہیں ان کے روحانیت بھرے  
کلام کے روپ میں تعویذات و نقوش پیش کیے جاتے ہیں۔

## عشق کی وادی

بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۶	محمد عربی	۱	تن مینے	۸	تے رجے
۷	ڈٹھا وہ	۵	جہاں	۳	وکیہ یوسف
۲	رجی خلقت	۹	دو ہیں جہانی	۴	کنعانی

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۸	کتھے فیر	۳	ملیاتے میں	۴	گل وچ
۱	سنفے دے وچ	۵	پالیاں بانواں	۹	وچھڑنہ جانواں
۶	ڈردی ماری	۷	اکھ نہ کھواں	۲	مینوں ماہی

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۴	اوہ اکھیاں	۹	لگ پیاں	۲	نے ساڈا
۳	دلبر ڈٹھا	۵	تک لیاں	۷	تے ساجن ملیا
۸	ہن آساں	۱	جہاں اکھیاں	۶	تولیوں

## قارئین متوجہ ہوں

نقوش کے کونوں میں دیئے جانے والے اعداد فقط پیاروں  
کونقوش کی چالیں بتلانے کے لیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تعویذ لکھتے وقت  
کونوں میں پڑے ہوئے اعداد کو تعویذ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

### بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۶	۱	۸
پیدا ہویا	عالم تے	یوسف
۷	۵	۳
صورت	حسنی سید	چڑھیا چن
۲	۹	۴
روشنائی ہوئی	ثانی	نورانی

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۸	صدقہ	۳	منگتا میں	۴	کنگال
۱	آل اولاد	۵	زیانی	۹	شاہ جیلانی
۶	پاؤ خیر	۷	محمد تائیں	۲	تیری دا

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۶	پیر	۱	واہ واہ میراں	۸	ہے محبوب
۷	پیراں دا	۵	غوث الاعظم	۳	سید دوہیں
۲	شاہ شہاں دا	۹	ربانی	۴	جہانی

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۲	زہد عبادت	۷	نہ ساڑے تینوں	۶	جاں جاں عشق
۹	نہ یاری	۵	کس کاری	۱	جے لکھ
۴	بن عشقے	۳	کریئے	۸	تاں تاں نہجے

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۸	لعل بنان	۳	نہ چھوڑے	۴	او گن دے
۱	مردے	۵	گن کردا	۹	پتھر دا
۶	کامل لوک	۷	محمد بخشا	۲	تاں درد

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۶	جے	۱	ولی اللہ دے	۸	ٹر گئے
۷	دنیا کولوں	۵	کی ہو یا	۳	کردے
۲	مردے ناہیں	۹	نال خاموشی	۴	پردہ پوشی

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۸	بیٹھا کے درد	۳	پانی منگے	۴	کھونیناں
۱	عشق	۵	دے گھیڑاں	۹	پرانے چھیڑاں
۶	جی کر دا اے	۷	تینوں کول	۲	تیرا جد

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۶	دُکھ قبول	۱	جہاں	۸	راضی رہن
۷	مُحِبُّ بَخِشَا	۵	توں وارے	۳	دلیر راضی
۲	دُکھاں وِج	۹	پیارے	۴	سکھ انہاں

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۶	ڈاڈے نال	۱	عشقیے	۸	کیس پھل
۷	مُحِبُّ بَخِشَا	۵	چھلکے پھر کے	۳	نہیں عہدا
۲	داپوند	۹	پایا لڑ کے	۴	جے جگ

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۲	پیارا اک	۷	پکھیرو	۶	ہما
۹	جال اساڈے	۵	جاناں اج	۱	جے محبوب
۴	نال اساڈے	۳	دن و سے	۸	پھاتھا

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۸	ہرگز ڈنگھے	۳	لکھے	۴	صورت نقش
۱	دل دی	۵	بجن دے	۹	اکھر من دے
۶	دھوتے دور	۷	ہوندے ناہیں	۲	تنختی اُتے



## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۴	۹	۲
رولایا	نظری آیا	لتاڑ گویا
۳	۵	۷
خاکونال	قدم	عذر کراں گا
۸	۱	۶
جے اوہ	جدے عشق	چھاں گا

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۴	۹	۲
پی ہمیش	شاخ ہنڈائی	کد ملنا
۳	۵	۷
مڑ کے	جدائی	محمد بخشا
۸	۱	۶
رج ناں	اساں انہاں	روونڑ پھل

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۴	کس کاری	۹	لکھ واری	۲	تے گلزاراں
۳	بن یاراں	۵	سجن ملے	۷	ہزاراں
۸	شکر کراں	۱	باغ بہاراں	۶	دکھ جان

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۴	لگنیم نال	۹	پہنچائے	۲	مرض
۳	محبت والی	۵	قضائے	۷	مارو چھوڑا
۸	دم دم ہرج	۱	بھاری	۶	اتوں ضرباں

## بنام خداوند بخشنده و مہربان

۴	۹	۲
تے توشہ	حشر دا	کچھ نیکی
۳	۵	۷
ہوسی	خرچ قبر دا	تساڈا
۸	۱	۶
گہناں روز	ہور کسے	میںوں پکوانام

## بنام خداوند بخشنده و مہربان

۶	۱	۸
نال قطاراں	سدانہ لاٹ	کد
۷	۵	۳
زہسن	سدا اڈاراں	سدانہ سوز
۲	۹	۴
چراغاں والی	کلنگاں	پتنگاں

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۴	۹	۲
سدانہ چھوپے پا	سدانہ	رل مل
۳	۵	۷
محمد	ونگاں	رتے
۸	۱	۶
ہتھ مہندی	بہناں سنگاں	سدانہ چھنکن

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۲	۷	۶
صبر نہ رچدا	ناہیں	کر سگدا
۹	۵	۱
اگ دی	سکاروں	عشقے وچ
۴	۳	۸
نہ لگدی	سورج میل	پردہ پوشی

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۴	۹	۲
لیجے گا	زیراں زیراں	دلدارى
۳	۵	۷
کرسى کون	خبراں	دکھڑے پھول سناساں
۸	۱	۶
پڑھ پڑھ	کون میری	کس نوں

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۶	۱	۸
رہن اکٹھے	واہ واہ	ہووے
۷	۵	۳
مویاں	جیوندیاں وی	جہاں دلیر
۲	۹	۴
بھاگ تنہاں دے	ہک ڈیرا	کول وسیرا

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۸	دین دنی	۳	نہ لایا	۴	بیٹھے من
۱	ہوندی طاقت	۵	رضائیں	۹	دے سائیں
۶	پانی باجھ	۷	پیا سے چلے	۲	زور

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۸	کون	۳	محمد	۴	کوئی بچا
۱	جھولی	۵	نہ سکے	۹	چھپائے ڈکے
۶	عشتقاں مشکاں	۷	تے دریاواں	۲	پاء انگار

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۸	۳	۴
پر دے	چند جھسدی	کردی اچے
۱	۵	۹
بھیت ناں	سنجھالا	پاڑن والا
۶	۷	۲
پر ظالم عشق	محمد بخشا	دسدی تے

## بنام خداوند بخشاینده و مہربان

۸	۳	۴
جہان	کیسی کوک	ساندے
۱	۵	۹
خرے کوئل	کتھے سکھ	دکھاندے
۶	۷	۲
محمد بخشا	بھرے	کو کو کردے

## عوام الناس متوجہ ہوں

جس ہستی کے پر بہار کلام کے سہارے پر تعویذات کی پیش کش  
کی گئی ہے اسی ہستی کی نگاہ کے فیض سے شائقین کی نظریں اثرات بھی  
ضرور ملاحظہ کریں گی۔ انشاء اللہ العزیز۔

## وقت کی اہم ضرورت

اے جان من زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کتاب جو کہ  
تیری نظروں میں ہے اس تصنیف میں اس مخفی خزانے کی پیش کش کی گئی  
ہے جس کی خاطر بہت سے دردمند رلتے اور ترستے نظر آ رہے ہیں اور  
کئی دل زخمی لوگ کڑھتے نظر آ رہے ہیں اور ان کی زندگیاں ضائع ہوتی  
چلی جا رہی ہیں لیکن اس دلدوز خزانے تک رسائی نہیں ہو رہی۔ جس کی  
پیش کش اس کتاب میں کی گئی۔ اگر سچ کہا جائے تو فقیروں کی نظروں میں  
پروان چڑھنے والی تصنیف زینت العاشقین و انتظار المحبوبین اس اعتبار  
سے وقت کی اہم ضرورت ہے۔



## رموز بھرا نقش

بنام خداوند بخشناینده ومہربان

قرآن	قرآن	قرآن
قرآن	قرآن	قرآن
قرآن	قرآن	قرآن

## اہل بصیرت متوجہ ہوں!

اس تصنیف لطیف کے

تعویذات و نقوش اور

اس کی طرز پر ہونے والے اعتراضات

مصنف کی بصیرت بفضلہ تعالیٰ

دیکھ بھی رہی ہے اور جانچ بھی رہی ہے

لیکن یقین یہ بات کہلوانے پر مجبور کر رہا ہے

کہ اس پر

کوئی بھی فقیر اعتراض نہیں اٹھاوے گا

کیونکہ یہ تصنیف ہوئی بھی تو

فقیروں کے فیض سے ہے۔

## اہلِ درد متوجہ ہوں!

اس تصنیف لطیف کے اثرات بھرے تعویذات میں سے اگر کوئی درد مند مسلم کسی تعویذ کے لکھنے کا خواہاں ہو تو وہ اپنا نام اسی تصنیف کی اسلامی ناموں کی وادی میں ڈھونڈے اگر مل جائے تو پھر اسے تعویذ تحریر کرنے کی اجازتِ کاملہ ہے کیونکہ اسلامی ناموں کی خوبصورت وادی اجازت نامے کے طور پر بنائی گئی ہے۔

## محبت میں جلے ہوئے دل متوجہ ہوں

آپ تک یہ بات بھی پہنچاتے چلیں کہ اسلامی ناموں کی وادی میں دیئے گئے نقوش کی رمزوں تک رسائی عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں۔

## اے جانِ من پریشان نہ ہو!

اے میری جان تو غمگین نہ ہو اسلامی ناموں کی وادی میں پہنچنے والے ہیں۔ اے میری جان وادی میں پہنچنے سے قبل اپنے پاک رب کی بارگاہ میں التجاء بھلا کیوں نہ کر لیں۔

## دُعا

اے اللہ پاک پیارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے صدقے میں  
پاک علی (رضی اللہ عنہ) کے صدقے میں غوث جلی کے صدقے میں دین  
اسلام پر قربان ہونا جن جن خوش نصیبوں کے نصیب میں لکھا ہے ہمیں بھی  
انہیں میں سے کر دے (آمین)

## اے جانِ من خوش ہو جا

اے میری جان تو خوش ہو جا متوجہ ہو  
سامنے دیکھ تو سہی خوبصورت وادی آگئی

### اسلامی ناموں کی خوبصورت وادی

- ❧ انوار الحسن (صرف تیرے لیے)
- ❧ سراج الحسن (صرف تیرے لیے)
- ❧ محبوب الحسن (صرف تیرے لیے)
- ❧ محبت الحسن (صرف تیرے لیے)
- ❧ نوید الحسن (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ن	س
ح	ا	ی
و	ن	د

- محمد حسن ► (صرف تیرے لیے)  
اسرار الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
احمد حسن ► (صرف تیرے لیے)  
اقرار الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
جواد الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ا	د
ج	ا	ن
ل	ح	و

- نجم الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
مصباح الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
طاہر الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ا	ح	ل
ن	ا	ط
ر	ه	س

- ابرار الحسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾
- غلام حسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾
- ذوہیب الحسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾
- توقیر الحسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾
- شاہزیب حسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾
- فاروق الحسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾
- دیدار الحسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾
- نور الحسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾
- تنویر الحسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾
- ندیم الحسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾

۷۸۶		
ل	ن	س
ح	ا	ی
د	ن	م

محمود الحسن ► (صرف تیرے لیے)

نجیب الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ن	س
ح	ا	ی
ج	ن	ب

علی حسن ► (صرف تیرے لیے)

شمس الحسن ► (صرف تیرے لیے)

جاوید الحسن ► (صرف تیرے لیے)



سبط الحسن ﴿ (صرف تیرے لیے)

مسعود الحسن ﴿ (صرف تیرے لیے)

منتظر الحسن ﴿ (صرف تیرے لیے)

ارشاد الحسن ﴿ (صرف تیرے لیے)

حفیظ الحسن ﴿ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ظ	ن	ف
ی	ا	ح
س	ح	ل

سجاد الحسن ﴿ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ا	د
س	ا	ن
ل	ح	ج

زین الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
آثار الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
دلدار الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
معتوق الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
یقین الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ی	س
ح	ا	ی
ق	ن	ن

رفیق الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
امید الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
م	ح	ل
ن	ا	ا
د	ی	س

ضیاء الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ا	ء
ض	ا	ن
ل	ح	ی

بصیر الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ب	س
ح	ا	ی
ص	ن	ر

مراد الحسن ﴿﴾ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ر	ح	ل
ن	ا	م
د	ا	س

- اقتدار الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
مقصود الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
تاثير الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
عرفان الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
توصیف الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
تیور الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
واجد الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	و	س
ح	ا	ج
ا	ن	د

- امانت الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
جمشید الحسن ► (صرف تیرے لیے)

عروج الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ج	ن	ر
و	ا	ح
س	ع	ل

جرار الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ا	ر
ج	ا	ن
ل	ح	ر

ثناء الحسن ﴿ (صرف تیرے لیے)

عارف الحسن ﴿ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ف	ن	ا
ر	ا	ح
س	ع	ل

انتخاب الحسن ﴿ (صرف تیرے لیے)

وقار الحسن ﴿ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	و	س
ح	ا	ا
ق	ن	ر

نفس الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ن	س
ح	ا	ی
ف	ن	س

وزیر الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	و	س
ح	ا	ی
ز	ن	ر



خلیل الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ن	ل
ی	ا	ح
س	خ	ل

وحید الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	و	س
ح	ا	ی
ح	ن	د

فقیر الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ق	ح	ل
ن	ا	ف
ر	ی	س

فرید الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ر	ح	ل
ن	ا	ف
د	ی	س

کبیر الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ی	ر
ک	ا	ن
ل	ح	ب

کریم الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ی	م
ک	ا	ن
ل	ح	ر

جلیل الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ی	ل
ج	ا	ن
ل	ح	ل

حبیب الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ب	ن	ب
ی	ا	ح
س	ح	ل

حمید الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
د	ن	م
ی	ا	ح
س	ح	ل

منیر الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ن	ح	ل
ن	ا	م
ر	ی	س

تصویر الحسن ► (صرف تیرے لیے)

قدیر الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ی	ر
ق	ا	ن
ل	ح	د

منظور الحسن ► (صرف تیرے لیے)

الطاف الحسن ► (صرف تیرے لیے)

منیب الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ن	ح	ل
ن	ا	م
ب	ی	س

معین الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ع	ح	ل
ن	ا	م
ن	ی	س

آفاق الحسن ► (صرف تیرے لیے)

بلال الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ب	س
ح	ا	ا
ل	ن	ل

خورشید الحسن ► (صرف تیرے لیے)

خادم الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
م	ن	ا
د	ا	ح
س	خ	ل

قمر الحسن ► (صرف تیرے لیے)

ریحان الحسن ► (صرف تیرے لیے)

قیوم الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	و	م
ق	ا	ن
ل	ح	ی



حامد الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
د	ن	ا
م	ا	ح
س	ح	ل

مشکور الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

عماد الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
د	ن	م
ا	ا	ح
س	ع	ل

حماد الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
د	ن	م
ا	ا	ح
س	ح	ل

مہتاب الحسن ► (صرف تیرے لیے)

جبار الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ا	ر
ج	ا	ن
ل	ح	ب

مشتاق الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

رفاقت حسن ▶ (صرف تیرے لیے)

جوہر الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ہ	ر
ج	ا	ن
ل	ح	و

تراب الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ت	س
ح	ا	ا
ر	ن	ب

دین الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
اعجاز الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
اشفاق الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
ماجد الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ا	ح	ل
ن	ا	م
د	ج	س

فائق الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ا	ح	ل
ن	ا	ف
ق	ء	س

رفیع الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ع	ن	ف
ی	ا	ح
س	ر	ل

رفیض الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ن	ء
ی	ا	ح
س	ر	ل

مکرم الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ک	ح	ل
ن	ا	م
م	ر	س

شمشاد الحسن ► (صرف تیرے لیے)

شرافت الحسن ► (صرف تیرے لیے)

کمال الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ا	ل
ک	ا	ن
ل	ح	م

اظہر الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ط	ح	ل
ن	ا	ا
ر	ہ	س

رضوان الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

عقیل الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ن	ق
ی	ا	ح
س	ع	ل

عتیق الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ت	ن	ق
ح	ا	ی
ل	ع	س

شفیق الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ح	ف
ش	ا	ن
س	ی	ق

سعادت الحسن ► (صرف تیرے لیے)

شریف الحسن ► (صرف تیرے لیے)



۷۸۶		
ر	ح	ل
ن	ا	ش
ف	ک	س

ادیب الحسن ﴿ صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ب	ن	د
ی	ا	ح
س	ا	ل

بشارت الحسن ﴿ صرف تیرے لیے)

عامر حسن ► (صرف تیرے لیے)  
شاہد الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ا	ح	ل
ن	ا	ش
د	ہ	س

شبیر الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ب	ح	ل
ن	ا	ش
ر	ی	س

ثاقب الحسن ﴿ صرف تیرے لیے )

۷۸۶		
س	ق	ب
ث	ا	ن
ل	ح	ا

سعید الحسن ﴿ صرف تیرے لیے )

۷۸۶		
س	ی	د
س	ا	ن
ل	ح	ع

فواد الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
و	ح	ل
ن	ا	ف
د	ا	س

رشید الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
د	ن	ش
ی	ا	ح
س	ر	ل

امین الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
م	ح	ل
ن	ا	ا
ن	ی	س

امتیاز الحسن ► (صرف تیرے لیے)

حرمت الحسن ► (صرف تیرے لیے)

صادق الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ص	س
ح	ا	د
ا	ن	ق

سلام الحسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾

۷۸۶		
س	ا	م
س	ا	ن
ل	ح	ل

ظفر الحسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾

سفیر الحسن ﴿ صرف تیرے لیے ﴾

۷۸۶		
س	ی	ر
س	ا	ن
ل	ح	ف

ضمیر الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ض	س
ح	ا	ی
م	ن	ر

سیف الحسن ► (صرف تیرے لیے)

فراز الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ر	ح	ل
ن	ا	ف
ز	ا	س

فرحت الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ر	ح	ل
ن	ا	ف
ت	ح	س

ساجد الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ج	د
س	ا	ن
ل	ح	ا



سہیل الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ی	ل
س	ا	ن
ل	ح	ہ

فیاض الحسن ► (صرف تیرے لیے)

کشف الحسن ► (صرف تیرے لیے)

کاشف الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ش	ف
ک	ا	ن
ل	ح	ا

شیراز الحسن ► (صرف تیرے لیے)

اترا الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
خ	ح	ل
ن	ا	ا
ر	ت	س

قرار الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ا	ر
ق	ا	ن
ل	ح	ر

اشتیاق الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

تمثیل الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

بہاء الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ب	س
ح	ا	ا
ہ	ن	ء

راحت الحسن ▶ (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ت	ن	ا
ح	ا	ح
س	ر	ل

اعزاز الحسن ► (صرف تیرے لیے)

جلال الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ا	ل
ج	ا	ن
ل	ح	ل

جمال الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ا	ل
ج	ا	ن
ل	ح	م

مرید الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ر	ح	ل
ن	ا	م
د	ی	س

حمید الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
د	ن	م
ی	ا	ح
س	ح	ل

- اظہار الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
اعتماد الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
انتساب الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
انضمام الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
تدبیر الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
فریاد الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
ریاض الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
ابصار الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
انیس الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
برید الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ب	س
ح	ا	ی
ر	ن	د

- تفسیر الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
تعمیر الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
تاثر الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
شاد الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
رشید الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
لطیف الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ف	ن	ط
ی	ا	ح
س	ل	ل

نثار الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ن	س
ح	ا	ا
ث	ن	ر

نصیب الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	ن	س
ح	ا	ی
ص	ن	ب



واصف الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	و	س
ح	ا	ص
ا	ن	ف

واصل الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	و	س
ح	ا	ص
ا	ن	ل

عید الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
د	ن	ب
ی	ا	ح
س	ع	ل

ادریس الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
عین الحسن ► (صرف تیرے لیے)  
قاصد الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
س	ص	د
ق	ا	ن
ل	ح	ا

وفاء الحسن ► (صرف تیرے لیے)

۷۸۶		
ل	و	س
ح	ا	ا
ف	ن	ء

اظہر حسین ► (صرف تمہارے لیے)

مظہر حسین ► (صرف تمہارے لیے)

جمال حسین ► (صرف تمہارے لیے)

جلال حسین ► (صرف تمہارے لیے)

فرقان حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ر	س	ح
ن	ن	ف
ا	ق	ی

فرمان حسین ﴿﴾ (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ر	س	ح
ن	ن	ف
ا	م	ی

مدر حسین ﴿﴾ (صرف تمہارے لیے)

مزل حسین ﴿﴾ (صرف تمہارے لیے)

نور حسین ﴿﴾ (صرف تمہارے لیے)

فریاد حسین ﴿﴾ (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ر	س	ح
ن	د	ف
ا	ی	ی

فیضان حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ی	س	ح
ن	ن	ف
ا	ض	ی

صداقت حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ح	ص	ی
س	ت	ا
د	ن	ق

شرافت حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ر	س	ح
ن	ت	ش
ف	ا	ی

شہباز حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ہ	س	ح
ن	ز	ش
ا	ب	ی

محمد حسین ► (صرف تمہارے لیے)

بلال حسین ► (صرف تمہارے لیے)

سعادت حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ی	ا	د
س	ت	ن
ح	س	ع

ذوالفقار حسین ► (صرف تمہارے لیے)

خادم حسین ► (صرف تمہارے لیے)

خالد حسین ► (صرف تمہارے لیے)

خاور حسین ► (صرف تمہارے لیے)

مقبول حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ق	س	ح
ن	ل	م
و	ب	ی

محبوب حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ح	س	ح
ن	ب	م
و	ب	ی

طارق حسین ► (صرف تمہارے لیے)

طیب حسین ► (صرف تمہارے لیے)

عاقب حسین ► (صرف تمہارے لیے)

عامر حسین ► (صرف تمہارے لیے)

عشرت حسین ► (صرف تمہارے لیے)

عطاء حسین ► (صرف تمہارے لیے)

عقیل حسین ► (صرف تمہارے لیے)

غفار حسین ► (صرف تمہارے لیے)

غلام حسین ► (صرف تمہارے لیے)



غیاث حسین ► (صرف تمہارے لیے)

مشتاق حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ش	س	ح
ن	ق	م
ا	ت	ی

عادل حسین ► (صرف تمہارے لیے)

عارف حسین ► (صرف تمہارے لیے)

رفاقت حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ق	ن	ف
ا	ت	س
ی	ر	ح

شیراز حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ی	س	ح
ن	ز	ش
ا	ر	ی

نزاکت حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ح	ن	ی
س	ت	ا
ز	ن	ک

شمشاد حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
م	س	ح
ن	د	ش
ا	ش	ی

تنویر حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ح	ت	ی
س	ر	و
ن	ن	ی

ممتاز حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
م	س	ح
ن	ز	م
ا	ت	ی

اشفاق حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ش	س	ح
ن	ق	ا
ا	ف	ی

دیدار حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ا	ن	ی
د	ر	س
ی	د	ح

معشوق حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ع	س	ح
ن	ق	م
و	ش	ی

تصویر حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ح	ت	ی
س	ر	و
ص	ن	ی

سلطان حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ی	ط	ا
س	ن	ن
ح	س	ل

دلاور حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
و	ن	ل
ا	ر	س
ی	د	ح

افتخار حسین ► (صرف تمہارے لیے)

دانیال حسین ► (صرف تمہارے لیے)

الطاف حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ل	س	ح
ن	ف	ا
ا	ط	ی

بشارت حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ح	ب	ی
س	ت	ا
ش	ن	ر

جاوید حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ی	و	ی
ج	د	ن
ح	س	ا



دلدار حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ا	ن	ل
د	ر	س
ی	و	ح

توقیر حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ح	ت	ی
س	ر	ق
و	ن	ی

خرم حسین ► (صرف تمہارے لیے)  
قربان حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ی	ب	ا
ق	ن	ن
ح	س	ر

ملازم حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ل	س	ح
ن	م	م
ز	ا	ی

شاد حسین ► (صرف تمہارے لیے)

شاہد حسین ► (صرف تمہارے لیے)

مقصود حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ق	س	ح
ن	د	م
و	ص	ی

مشکور حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ش	س	ح
ن	ر	م
و	ک	ی

احسان حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ح	س	ح
ن	ن	ا
ا	س	ی

سخاوت حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ی	ا	و
س	ت	ن
ح	س	خ

منشاد حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ن	س	ح
ن	د	م
ا	س	ی

ارشاد حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ر	س	ح
ن	د	ا
ا	ش	ی

اسرار حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
س	س	ح
ن	ر	ا
ا	ر	ی

دلشاد حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ا	ن	ل
ش	د	س
ی	د	ح

جشید حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ی	ش	ی
ج	د	ن
ح	س	م

توصیف حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ح	ت	ی
س	ف	ص
و	ن	ی

- ریاض حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- ساجد حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- سجاد حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- سعد حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- صادق حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- تراب حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- کمال حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- انتظار حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- باسط حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- باقر حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- فدا حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- جواد حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- کاشف حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- کاظم حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- آفتاب حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- آفاق حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- نثار حسین ► (صرف تمہارے لیے)



- نظر حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- اقدار حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- فضل حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- الطاف حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- صبغت حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- صدام حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- مراد حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- نادر حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- ناصر حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- انتخاب حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- طالب حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- قاصد حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- مرید حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- فقیر حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- راشد حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- سراج حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- سرفراز حسین ► (صرف تمہارے لیے)

- سرد حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- عاشق حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- طفیل حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- ظفر حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- اعظم حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- جنید حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- جوہر حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- شبیر حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- عابد حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- راحت حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- تقدس حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- تصور حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- فواد حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- لطیف حسین ► (صرف تمہارے لیے)
- اعزاز حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ع	س	ح
ن	ز	ا
ا	ز	ی

فرخ حسین ► (صرف تمہارے لیے)

عرفات حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ا	ن	ر
ف	ت	س
ی	ع	ح

عنایت حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ی	ن	ن
ا	ت	س
ی	ع	ح

شعبان حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ع	س	ح
ن	ن	ش
ا	ب	ی

رومان حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ا	ن	و
م	ن	س
ی	ر	ح

ذیشان حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ی	س	ح
ن	ن	ذ
ا	ش	ی

تحمین حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ح	ت	ی
س	ن	س
ح	ن	ی

تسکین حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ح	ت	ی
س	ن	ک
س	ن	ی

- شمس حسین ► (صرف تمہارے لیے)  
انتساب حسین ► (صرف تمہارے لیے)  
اقبال حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ق	س	ح
ن	ل	ا
ا	ب	ی

- تبسم حسین ► (صرف تمہارے لیے)  
چراغ حسین ► (صرف تمہارے لیے)  
حسان حسین ► (صرف تمہارے لیے)  
حمایت حسین ► (صرف تمہارے لیے)

۷۸۶		
ی	ن	م
ا	ت	س
ی	ح	ح

حنات حسین ﴿ صرف تمہارے لیے ﴾

۷۸۶		
ا	ن	س
ن	ت	س
ی	ح	ح



محمد اسلام ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ل	س
م	ا	م
د	م	ا

محمد حفظہ ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ظ	ن
ہ	ح	م
د	م	ل

فقیر محمد ▶ (صرف آپ کے لیے)  
محمد حارث ▶ (صرف آپ کے لیے)  
مبین حسنا ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ب	ن	س
ت	ح	م
ن	ی	ا

محمد حذیفہ ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ی	ز
ہ	ح	م
د	م	ف

کرامت علی ﴿ صرف آپ کے لیے ﴾

محمد سیرین ﴿ صرف آپ کے لیے ﴾

۷۸۶		
ح	ر	ی
ن	س	م
د	م	ی

محمد غفران ﴿ صرف آپ کے لیے ﴾

۷۸۶		
ح	ر	ف
ن	غ	م
د	م	ا

عبدالواجد ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	و	ب
و	ل	ا
ج	ع	و

- محمد اویس ► (صرف آپ کے لیے)  
مراتب علی ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد بکر ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد طیب ► (صرف آپ کے لیے)  
احمد یار ► (صرف آپ کے لیے)  
علی نور ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد نبیل ► (صرف آپ کے لیے)  
دانش حسنا ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ش	ت	ا
ن	ح	ن
ا	د	س

- فرمان علی ► (صرف آپ کے لیے)
- کفایت علی ► (صرف آپ کے لیے)
- محمد صائم ► (صرف آپ کے لیے)
- محمد عاصم ► (صرف آپ کے لیے)
- عبدالمنان ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	ن	ب
د	ل	ن
ا	ع	م

محمد اسامہ ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ا	س
ہ	ا	م
د	م	م

محمد شہاب ► (صرف آپ کے لیے)  
اقتدار احمد ► (صرف آپ کے لیے)  
قطب الدین ► (صرف آپ کے لیے)  
حشمت علی ► (صرف آپ کے لیے)  
وحید الزمان ► (صرف آپ کے لیے)  
عاطف محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ف	د	ا
ط	م	م
و	ع	ح

انوار الحق ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ن	ل	ا
ق	ر	ا
ا	و	ح

عتیق الرحمن ► (صرف آپ کے لیے)

محبوب علی ► (صرف آپ کے لیے)

مہر علی ► (صرف آپ کے لیے)

عبدالعزیز ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	ز	ب
د	ل	ز
ی	ع	ع

عبدالباسط ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	ط	ب
د	ل	ا
س	ع	ب



عبدالمصور ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	ر	ب
د	ل	ص
و	ع	م

عبدالوہاب ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	ب	ب
د	ل	ہ
ا	ع	و

- عبدالمتقدر ► (صرف آپ کے لیے)  
عبدالاول ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد یونس ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد یوسف ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد صالحین ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد سلیمین ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد فہد ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد شرجیل ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ج	ر
ل	ش	م
د	م	ی

- محمد کامران ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد حسنین ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ن	س
ن	ح	م
د	م	ی

محمد نعمان ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	م	ع
ن	ن	م
د	م	ا

منور علی ► (صرف آپ کے لیے)

شمس علی ► (صرف آپ کے لیے)

ہارون منور ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	ن	م
ر	ن	ہ
و	ر	و

- مظہر علی ▶ (صرف آپ کے لیے)
- فرہاد علی ▶ (صرف آپ کے لیے)
- فرحت علی ▶ (صرف آپ کے لیے)
- اسعد شہزاد ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
س	ز	ہ
د	ش	ا
د	ع	ا

- ولایت علی ► (صرف آپ کے لیے)
- قمر اسلام ► (صرف آپ کے لیے)
- ہاشم رضا ► (صرف آپ کے لیے)
- فیضان علی ► (صرف آپ کے لیے)
- محمد روحان ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ح	و
ن	ر	م
د	م	ا

- صفی اللہ ► (صرف آپ کے لیے)
- علی اصغر ► (صرف آپ کے لیے)
- سیف علی ► (صرف آپ کے لیے)
- فیصل شہزاد ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ی	ز	ہ
د	ش	ف
ل	ص	ا

- ریاست علی ▶ (صرف آپ کے لیے)
- آصف علی ▶ (صرف آپ کے لیے)
- احمد رضا ▶ (صرف آپ کے لیے)
- احسن علی ▶ (صرف آپ کے لیے)
- حامد رضا ▶ (صرف آپ کے لیے)
- دانش اسلام ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ش	م	ا
ن	ا	ل
ا	د	س

محمد عبداللہ ► (صرف آپ کے لیے)  
کاشف اسلام ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	ش	ف
ک	ا	م
س	ل	ا

شہریار علی ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ہ	ع	ر
ی	ا	ش
ی	ر	ل

مجاہد احمد ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ج	ح	ا
د	د	م
ہ	ا	م

جان محمد ▶ (صرف آپ کے لیے)

امیر حمزہ ▶ (صرف آپ کے لیے)

عثمان علی ▶ (صرف آپ کے لیے)

عمر فاروق ▶ (صرف آپ کے لیے)

محمد عمر ▶ (صرف آپ کے لیے)

یاسر علی ▶ (صرف آپ کے لیے)

عثمان حیدر ▶ (صرف آپ کے لیے)



۷۸۶		
ا	ر	ث
م	ن	ی
د	ع	ح

- شوکت علی ► (صرف آپ کے لیے)
- محمد حماد ► (صرف آپ کے لیے)
- شاہد علی ► (صرف آپ کے لیے)
- تغظیم علی ► (صرف آپ کے لیے)
- جہانگیر علی ► (صرف آپ کے لیے)
- محسن علی ► (صرف آپ کے لیے)
- جمشید علی ► (صرف آپ کے لیے)
- اختر علی ► (صرف آپ کے لیے)
- ذوہیب علی ► (صرف آپ کے لیے)
- اظہر علی ► (صرف آپ کے لیے)

- ظفر علی ► (صرف آپ کے لیے)  
صلاح الدین ► (صرف آپ کے لیے)  
احمد علی ► (صرف آپ کے لیے)  
شاکر علی ► (صرف آپ کے لیے)  
احمد علی ► (صرف آپ کے لیے)  
معین علی ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد فرحان ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ح	ر
ن	ف	م
د	م	ا

ارشاد محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ر	م	ح
و	م	ا
و	ش	و

محمد علی ► (صرف آپ کے لیے)

سفیر علی ► (صرف آپ کے لیے)

جواد علی ► (صرف آپ کے لیے)

عمر علی ► (صرف آپ کے لیے)

اسعد محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
س	م	ح
و	م	ا
و	ع	و

مبشر علی ► (صرف آپ کے لیے)

سعد علی ► (صرف آپ کے لیے)

مدر علی ► (صرف آپ کے لیے)

مراد محبوب ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ر	م	ح
و	م	م
و	ا	و

طالب محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	م	ح
و	م	ط
ب	ل	و

محمد سفیان ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ی	ف
ن	س	م
و	م	ا

انتظار علی ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ن	ع	ر
ی	ا	ا
ظ	ت	ل

طاہر محمود ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	م	ح
د	م	ط
ر	ہ	و

محمد صداقت ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ا	د
ت	ص	م
د	م	ق

لیاقت علی ► (صرف آپ کے لیے)

عرفان محمود ► (صرف آپ کے لیے)

بدر الایمان ► (صرف آپ کے لیے)

باقر محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ب	و
م	م	ق
ا	د	ر

منظور علی ► (صرف آپ کے لیے)

اکرم محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ک	م	ح
د	م	ا
م	ر	و

نبیب علی ► (صرف آپ کے لیے)

دلشاد علی ► (صرف آپ کے لیے)

محمد رفاقت ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ا	ف
ت	ر	م
د	م	ق



نظام علی ▶ (صرف آپ کے لیے)

نقیب محمود ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ن	و
م	م	ی
ق	د	ب

منیر علی ▶ (صرف آپ کے لیے)

شیراز احمد ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ی	ح	ا
د	ز	ش
ا	ر	م

محمد اسحاق ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ح	س
ق	ا	م
د	م	ا

کفایت رضا ► (صرف آپ کے لیے)  
محمد رضوان ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	و	ض
ن	ر	م
د	م	ا

محمد فرقان ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ق	ر
ن	ف	م
د	م	ا

محمد الیاس ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ی	ل
س	ا	م
د	م	ا

اعجاز احمد ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ع	ح	ا
د	ز	ا
ا	ج	م

نعمان علی ► (صرف آپ کے لیے)

ثاقب محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
و	ق	ب
ث	م	د
ح	م	ا

ساجد محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
و	ج	د
س	م	د
ح	م	ا

امانت احمد ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
م	ح	ا
د	ت	ا
ن	ا	م

محمد حسنت ﴿ صرف آپ کے لیے ﴾

۷۸۶		
ح	ن	س
ت	ج	م
د	م	ا

فرید محمود ﴿ صرف آپ کے لیے ﴾

۷۸۶		
ر	م	ح
د	م	ف
د	ی	و

محمد اقرار ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ر	ق
ر	ا	م
د	م	ا

محمد افضال ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ض	ف
ل	ا	م
د	م	ا

نذیر محمود ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ن	و
م	م	ی
ز	د	ر

محمود اسعد ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	س	ا
د	د	م
و	م	ع



شعیب محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ع	م	ح
د	م	ش
ب	ی	و

اعجاز علی ► (صرف آپ کے لیے)

مزل محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
د	م	ح
د	م	م
ر	ث	و

مدرسہ محمود (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
و	م	ح
و	م	م
ر	م	و

وارث محمود (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	و	و
م	م	ر
ا	د	ث

معین محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ع	م	ح
د	م	م
ظ	د	و

مظہر فرید ► (صرف آپ کے لیے)

صابر محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ص	و
م	م	ب
ا	د	ر

نادر محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ن	و
م	م	د
ا	د	ر

اعزاز الحق ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ع	ل	ا
ق	ز	ا
ا	ز	ح

لطیف محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ف	و	ط
ی	م	م
و	ل	ح

اشتیاق علی ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ش	ع	ق
ی	ا	ا
ی	ت	ل

محمد بشارت ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ا	ش
ت	ب	م
د	م	ر

ارسلان علی ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ر	ع	ن
ی	ا	ا
ل	س	ل

اشعر محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ش	م	ح
و	م	ا
ر	ع	و

محمد اکرام ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ر	ک
م	ا	م
و	م	ا

امتیخاب علی ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ن	ع	ب
ی	ا	ا
خ	ت	ل

ایاز محمود ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ی	م	ح
د	م	ا
ز	ا	و



باسط محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ب	و
م	م	س
ا	د	ط

تابش محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ت	و
م	م	ب
ا	د	ش

ثروت محمود ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
و	و	ت
ث	م	د
ح	م	ر

جوہر محمود ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
و	ہ	ر
ج	م	د
ح	م	و

حازق محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ق	د	ا
ز	م	م
و	ح	ح

خالد محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
د	د	ا
ل	م	م
و	خ	ح

- خرم شہزاد ► (صرف آپ کے لیے)  
اعجاز عثمان ► (صرف آپ کے لیے)  
مظہر عثمان ► (صرف آپ کے لیے)  
داؤد علی ► (صرف آپ کے لیے)  
ذیشان احمد ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ی	ح	ا
د	ن	ذ
ا	ش	م

رفعت محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ت	د	ف
ع	م	م
و	ر	ح

ریاض محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ض	د	ی
ا	م	م
و	ر	ح

سلطان احمد ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
م	ط	ا
س	ن	د
ا	ح	ل

محبوب احمد ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ح	ا
د	ب	م
و	ب	م

یقین محبوب ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ی	و
ب	م	ی
ق	ب	ن

فائق محمود ﴿﴾ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	م	ح
د	م	ف
ق	ء	و

فقیر محمود ﴿﴾ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ق	م	ح
د	م	ف
ر	ی	و

مینب محمود ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ب	و	ن
ی	م	م
و	م	ح

محمود جان ▶ (صرف آپ کے لیے)  
طالب اسلام ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ا	ل	س
م	ا	ط
ب	ل	ا



شہادت احمد ﴿ صرف آپ کے لیے ﴾

۷۸۶		
ہ	ح	ا
د	ت	ش
د	ا	م

عاشق اسلام ﴿ صرف آپ کے لیے ﴾

۷۸۶		
ق	م	ا
ش	ا	ل
ا	ع	س

حمایت احمد ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ی	د	م
ر	ت	ح
م	ح	ا

محمد انصار ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ص	ن
ر	ا	م
د	م	ا

نصرت محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ن	و
م	م	ر
ص	د	ت

مستقیم علی ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
س	ع	م
ی	ی	م
ق	ت	ل

محمد مہران ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ر	ہ
ن	م	م
د	م	ا

محمد ابدال ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	د	ب
ل	ا	م
د	م	ا

مجر تسہیل ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ہ	س
ل	ت	م
د	م	ی

دانیال علی ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ی	ی	ا
ن	ا	ع
ل	د	ل

محمد سبجان ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ح	ب
ن	س	م
د	م	ا

محمد عدنان ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ن	د
ن	ع	م
د	م	ا

محمد قربان ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ب	ر
ن	ق	م
د	م	ا

کعب محبوب ► (صرف آپ کے لیے)

محمد قنادہ ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ا	ت
ہ	ق	م
د	م	د

محبوب احمد ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ح	ا
د	ب	م
و	ب	م

مدثر اقبال ▶ (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
د	ب	ق
ل	ا	م
ر	ث	ا



عزیز محمود ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ر	و	ز
ی	م	م
و	ع	ج

نیاز علی ► (صرف آپ کے لیے)

محمد اخلاق ► (صرف آپ کے لیے)

۷۸۶		
ح	ل	خ
ق	ا	م
د	م	ا

## خفیہ امانتیں

اے زینت العاشقین و انتظار المحبوبین اگر تجھے کبھی قسمت کھینچ کر  
محبوب کے پاس لے جائے تو پھر ان امانتوں کو چھپا کے نہ رکھنا جو تیرے  
اندر پوشیدہ ہیں بلکہ معشوق کی بارگاہِ راحت میں پیش کر دینا۔

## احساس

اے زینت العاشقین و انتظار المحبوبین تو نے آخر کب تک  
غیروں کے پاس رہنا ہے کاش کہ فقط تو محبوب کی نظروں میں رہتی اور  
غیروں کی نظروں کا نشا نہ نہ بنتی۔

## تصنیفِ لطیف کے نقوش کے خواص کے اشارات

اے میری جان زینت العاشقین و انتظار المحبوبین کے  
پر تاثیر نقوش کے خواص کا بیان مفصل لانے سے تو  
قاصر ہی رہ گئے لیکن ٹوٹے ہوئے دل کی حسرت ہے  
کہ فقیروں کی نظروں میں پروان چڑھنے والی تصنیف  
کے نقوش کے خواص کے تمبر کا کچھ اشارات قارئین کی  
نظر کر دیئے جائیں۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی تصنیف کی  
رونق بنے ہوئے ہے جو دعا کی قبولیت کروانے میں  
اہم کردار ادا کرتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی تصنیف کی

زینت بنے ہوئے ہے جس کے فیض سے کشف  
القلوب نصیب ہو جاتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی تصنیف کی  
خوبصورتی میں اضافہ کیے ہوئے ہے جس کی برکت  
سے تنخیر انسانیت اور تنخیر جنات جیسے فوائد کا حصول  
ہوتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی موجود ہے جو  
بہت نازک اوقات میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی موجود ہے جس  
کی تاثیر سے بھولا ہوا قرآن مجید بھی یاد ہو جاتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی لایا گیا ہے جو  
وسعت رزق کے لیے از حد مفید ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی آیا ہوا ہے جو  
اپنے ساتھ اتنا حسن لیے ہوئے ہے کہ اگر قواعد و  
قوانین کے ساتھ لکھ کر کسی کے بازو پر باندھوا دیا

جائے تو اس میں بھی حسن کے جلوے نظر آنے لگیں  
گے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی قارئین کو  
دکھائی دیوے گا جو شفاءِ امراض کے لیے سرلیج  
التاثر ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی آپ کے دل  
میں لگنے کے لیے آیا ہے جس کی برکات سے ایسی  
عزت نصیب ہوتی ہے جو آدمی کے وہم و گمان سے  
بھی باہر ہوتی ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی تصنیف کی  
عزت میں اضافہ کیے ہوئے ہے جس کے فیض سے  
ایک سو نوے دن میں قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی لانا پڑا جو ایسی  
مہلک بیماریوں سے شفاء کا سبب بنتا ہے جنہیں نفسانی  
بیماریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی فقراء نے بھجوا دیا جس کے اثرات سے علم ظاہری و باطنی نصیب ہوتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی ہے جو وہم و غم میں مبتلا شدہ افراد کی فوری حمایت کرتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی تحریر ہے جس میں اتنی رمزیں ہیں کہ اس کی طرف متوجہ ہونے سے روحانیت نصیب ہوتی ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی آیا ہے جس کی روحانیت کی تاثیر سے آدمی عبادت و ریاضت کا شائق بن جاتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی برکتیں بکھیرنے آیا ہوا ہے جس کی برکت سے شب و روز درود پڑھنے کے لیے آدمی کا دل ترستا رہتا ہے۔ اے جانِ من جب یہ صفت آجائے تو پھر سمجھ لینا کہ تیرے

دن اب بھلے آگئے ہیں۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی بنا ہوا ہے جس

کی برکت سے کھیتی میں بہت برکت ہوتی ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی درج ہو گیا ہے

جو پائیداری منصب کے لیے بہت کارآمد ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی تحریر ہو گیا ہے

جسے حاجت مند آدمی استعمال میں لائے تو جلد از جلد

نقش اس کی تحصیل امید کا سبب بن جاوے گا۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی لانا پڑا جو بے

جاشہوت و تکبر کو آدمی سے دور کرتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی تحریر میں آ گیا

جس کے فیض سے کمال نصیب ہوتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی مدروح ہو گیا

ہے جس نے کئی اجڑے ہوئے سنوارے ہیں

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی لکھا ہوا ہے جو

تجارت میں نفع یابی کے لیے از حد مفید ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی لکھ دیا گیا ہے جسے کندز بہن استعمال میں لائے تو اس کا حافظہ قوی ہو جاوے گا۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی تحریر میں لایا گیا جو کسی بچے کو پہنوا دیا جائے تو ضرور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس بچے میں درویشوں اور فقیروں والی خصالتیں آ جاتی ہیں۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی دیا گیا ہے جسے قوانین کے ساتھ تحریر میں لا کر استعمال میں لایا جاوے تو اولادِ زینہ نصیب ہوتی ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش کے نقوش میں ایسا نقش بھی رونقوں سے بھرا ہوا ہے جس نے کبھی کسی سے بے وفائی نہیں کی۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی درج ہے جو



دورانِ توجہ ایک نہایت کامل فقیر سے زینت العاشقین  
و انتظار المحبوبین کتاب کے نہایت ناقص حقیر مصنف کو  
ملا ہے نقش کا اعجاز یہ ہے کہ جو مسلم پہن لے تو اس پر  
اثرات اتنے پڑیں گے کہ مرجانے پر بھی تعویذ کی  
روحانیت اور اثرات نہیں اتریں گے اگرچہ تعویذ اتر  
جاوے گا۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی ہے جو رعب  
سے بھرا ہوا ہے اور تجربے میں یہ بات آچکی ہے کہ  
جس کے پاس ہو اس میں بھی رعب آنے لگتا ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی لکھنے میں آیا  
ہے جو اکمل اور کامل ہے نقش کی خاصیت یہ ہے کہ  
جس کے پاس یہ رہے گا لوگ اس کی گفتگو میں سے  
لذت پائیں گے اور اس کی گفتگو کی جانب متوجہ ہوں  
گے اور متاثر ہو جائیں گے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی لکھنے میں آیا  
ہے جو دفع آسب و سحر کے لیے از حد مفید ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی درج ہے جو نظر بد سے حفاظت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی درج ہے جو مال و اسباب میں رکھا جائے تو چوری سے حفاظت رہتی ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی تحریر ہے جو ہر حاجت کے لیے از حد مفید ثابت ہوتا ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی ہے جو اتنا اہم ہے کہ جس شخص کی اپنے کسی پیارے سے دوری ہوگئی ہو تو نقش کی برکت سے ملاپ ہو سکتا ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی ہے جو اتنا کارآمد ہے کہاگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو تو نقش کی روحانیت کی تاثیر سے اسے چھٹکارہ مل سکتا ہے۔

▶ اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی تحریر کیا گیا جسے

اگر کوئی دردمند کسی کامل کے مزار پر ساتھ لے کر  
جاوے گا تو نقش کو از حد کار آمد پاوے گا۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی موجود ہے جسے  
اگر کوئی دردمند استعمال میں لائے تو اس کا کسی نہ کسی  
صاحبِ مزار بزرگ سے ایسا تعلق جڑے گا کہ اسے  
خود بھی سمجھ نہیں آوے گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی ہے جو محبوب  
کی دہلیز تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی ہے جو اتنا  
کار آمد ہے کہ نقش جس کے پاس رہے گا وہ کمال  
پائے گا۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی ہے جس کی  
برکت سے بوڑھوں کے لیے بھی قرآن مجید یاد کرنا  
ممکن ہے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی موجود ہے جسے

بازو پر باندھ لیا جائے تو بہت سے دیکھنے والے عزت  
کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی موجود ہے جسے  
کوئی صاحب ایمان پہن لے تو اسے دیکھتے ہی قراء اسے  
محبت کرنے لگیں گے۔

اس تصنیف کے نقوش میں ایسا نقش بھی موجود ہے جسے  
پہننے والا ایک دن مقامِ ولایت پر ضرور فائز ہوتا ہے۔  
اس لیے کہ نقش کی روحانیت اسے اسلام کی محبت کے  
سمندر میں ڈوبا دے گی۔

## خاص الخاص وظیفہ

اے جانِ من تیری تمنا اگر ہے کہ تجھ پر اسرار کھل جائیں تو پھر اپنے لیے میری بات کو دل میں جگہ دینا اے میری جان متوجہ ہو جو بات تیرے پڑھنے میں آنے والی ہے ایسا نہ ہو کہ تو اس کے فیض سے محروم ہی رہ جائے غور تو کرو شاید یہی وہ بات ہو جس نے تجھے محبوب تک لے کر جانا ہے اے عزت من خاص الخاص وظیفہ یہ ہے کہ شب کو تو اس وقت تک سو نہیں جب تک تمیں بارقرآن مجید نہ چوم لے اور صبح کو اس وقت تک کسی سے بول نہیں جب تک تمیں بارقرآن مجید نہ چوم لے اور شام کو اس وقت تک کچھ کھا نہیں جب تک تمیں بارقرآن مجید نہ چوم لے اور قبر میں اس وقت تک جا نہیں جب تک تمیں بارقرآن مجید نہ چوم لے یعنی ابھی اور اسی وقت قرآن چوم لے ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید چومنا تیرے نصیب میں نہ ہو اور تو قرآن مجید چومے بغیر مر جائے اور قبر میں چلا جائے۔

## توجہ

مذکورہ وظیفہ کے لیے کسی کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں  
بلکہ شریعت مطہرہ کی اجازت ہی کافی ہوگی۔

## نقطہ

اے زینت العاشقین و انتظار المحبوبین اگر تجھے محبوب نے قبول  
فرمایا تو پھر تیری مقبولیت ہی مقبولیت ہے اور اگر تجھے محبوب نے قبول نہ  
کیا تو پھر کوئی مقبولیت نہیں۔ چاہے دنیا ساری کیوں نہ قبول کر لے۔

## تصنیف لطیف کا آخری منظر

اے جانِ من محبوب اگر قبول فرما لے تو پھر ہمارے لیے اتنے صفحات ہی کافی ہیں اور محبوب اگر قبول ہی نہ فرماوے تو پھر کروڑوں صفحات کیوں نہ لکھ دیں تب بھی نامراد رہیں گے اے جانِ من اگر محبوب ہی نہ ملے تو پھر فقط صفحات لکھ کر کیا کریں گے۔ جس کسی کو بھی اس کتاب سے کسی قسم کا بھی استفادہ حاصل ہو تو پھر اسے اپنی محبت کا واسطہ ہے کہ ایک دعا ضرور کرے۔

## دعا یہ ہے

زینت العاشقین و انتظار المحبوبین تصنیف مشہوری نہ پائے مگر محبوب کی بارگاہ میں مقبولیت پا جائے اور کسی کو پسند آئے یا نہ آئے مگر محبوب کو پسند آ جائے۔ کوئی اسے سینے سے لگائے یا نہ لگائے مگر محبوب لگا لے۔ کوئی اسے اپنا بنائے یا نہ بنائے مگر محبوب بنا لے۔

## ٹائٹل بیک انساب

راکب دوش مصطفیٰ (ﷺ) شہزادہ گلگلوں قبا،  
نواسہ رسول، جگر گوشہ بتول، دل بند علی المرتضیٰ،

برادر حسن مجتبیٰ امام عالی مقام

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام

جنہوں نے حق کا علم اٹھا کر یزید سے ٹکر لی اور قیامت تک کے لیے

یزیدیت کے تابوت میں ایسا کیل ٹھونکا کہ ہر دور کی یزیدیت

نام حسین سن کر کانپتی رہے گی۔